

جہاں قادیان



محمد ظاہر رزاق

دَجَالِ قَادِيَانِ

مَجْلَمِ رِزَاقِ

عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت

حضورى باغ روڈ، ملتان

انتساب!

جس دل کے آئینے میں محمدؐ کا نام ہے
دوزخ کی آگ اس پہ یقیناً حرام ہے
تحفظ ختم نبوت کیلئے
آگ دھڑکتے دل
آگ متفکر و مبالغہ
آگ مضطرب روح

جناب الحاج محمد زبیر مغل مدظلہ کے نام

آئینہ مضامین

- 6 حرف ریزے (محمد طاہر رزاق)
- 9 کرنیں (سید محمد نفیس شاہ صاحب)
- 10 گفتگو (جاوید چودھری)
- 14 قادیانی۔۔۔۔ اسلام اور پاکستان کے غدار (ڈاکٹر وحید عشرت)
- 27 اللہ کا گستاخ
- 40 کیا ہم رسول اللہ ﷺ کے امتی ہیں؟
- 49 مرزا قادیانی کو نبی کیوں بنایا گیا؟
- 56 ختم نبوت کے پاسبان
- 75 مرزا قادیانی کا حافظہ
- 99 مسٹر گالی گلوچ
- 122 مجرم اعتراف جرم کرتا ہے
- 130 مرزا قادیانی کا بچپن
- 145 قادیان کا بد کردار
- 154 ایک منہ۔۔۔۔۔ روز بائیں

حرفِ سپاس

ابتدائے کتاب سے لے کر تکمیل کتاب تک تمام مرحلوں میں میرے محترم دوست جناب محمد فیاض اختر ملک، جناب محمد متین خالد، جناب محمد صدیق شاہ بخاری، جناب سید ملہد ار حسین شاہ بخاری، جناب طارق اسماعیل ساگر، جناب حافظ شفیق الرحمن، جناب عبدالرؤف روٹی، جناب ممتاز اعوان، جناب محمد سلیم ساقی کا تعاون ہر دم مجھے میسر رہا اور ان دوستوں کی جدوجہد اور دعاؤں سے یہ کتاب منصفہ شہود پر طلوع ہوئی۔ میں ان تمام دوستوں کا دل کی اتھاہ گہرائیوں سے شکر گزار ہوں اور اللہ تعالیٰ کے حضور بدست دعا ہوں کہ اللہ پاک انہیں اجر عظیم سے نوازے۔ (آمین)

میں ممنون ہوں خواجہ خواجگان حضرت مولانا خان محمد مدظلہ، خطیب ختم نبوت حضرت مولانا محمد اجمل خان مدظلہ، نمونہ اسلاف حضرت مولانا عزیز الرحمن جالندھری مدظلہ، فدائے ختم نبوت حضرت مولانا سید نفیس شاہ الحسینی مدظلہ، جانثار ختم نبوت الحاج محمد نذیر مغل مدظلہ، پروانہ ختم نبوت جناب ارشاد احمد عارف مدظلہ، مجاہد ختم نبوت صاحبزادہ طارق محمود مدظلہ کا جن کی سرپرستی کا سحاب کرم میرے سر پر چھایا رہا۔ اللہ تعالیٰ ان تمام بزرگوں کا سایہ ہمارے سروں پر تادیر سلامت رکھے۔ (آمین ثم آمین)

حرف ریزے

میں نے ایک چور دیکھا-----

اس کے چہرے پہ داڑھی تھی

اس کے سر پہ پگڑی تھی

اس کی بغل میں قرآن تھا

اس کے ہاتھوں میں تسبیح تھی

اس کے لبوں پہ اسلام کے ترانے تھے

اس کے ماتھے پہ سجدوں کے نشان تھے

اس کے منہ پر رنگ و روغن کا میک اپ تھا

اس کی آواز در دوسوز میں ڈوبی تھی

اس کا لہجہ ایک ناصح کا لہجہ تھا

اس کا طرز تکلم ایک واعظ کا طرز تکلم تھا

اس کی باتیں نیکی اور فلاح کی پیغامبر تھیں

وہ گلی گلی----- کوچہ کوچہ----- قریہ قریہ----- نگر نگر----- شہر شہر گھوم رہا

تھا۔۔۔۔۔ اور اپنا پیغام پھیلا رہا تھا

میں نے جب اسے احتسابی نگاہوں سے دیکھا۔۔۔۔۔ تو اس نے آنکھیں چرا لیں۔۔۔۔۔ جب دوبارہ آنکھیں چارہوئیں۔۔۔۔۔ تو اس کی آنکھوں سے خوف نپک رہا تھا۔۔۔۔۔ میں نے گھن گرج سے جب اسے آواز دی۔۔۔۔۔ تو اس کے ماتھے پہ ٹھنڈے پسینے کے قطرے تیر رہے تھے۔۔۔۔۔ جب میں اس کی جانب بڑھا تو اس کے پاؤں ڈگمگا رہے تھے۔۔۔۔۔ جب میں اس کے قریب پہنچا تو اس کا جسم کپکپا رہا تھا۔۔۔۔۔ جب میں نے اسے کلائی سے پکڑا تو اس کے جسم کی حرارت ٹھنڈک میں تبدیل ہو چکی تھی۔۔۔۔۔ اور وہ سردی میں سکڑا ہوا سانپ تھا!

میں نے اس کی بغل سے قرآن چھین لیا۔۔۔۔۔ اس کے ہاتھوں سے تسبیح لوچ لی۔۔۔۔۔ اس کے سر سے پگڑی اتاری۔۔۔۔۔ اس کے چہرے سے جعلی داڑھی کھینچ لی۔۔۔۔۔ اور اس کے منہ سے رنگ و روغن کا میک اپ کھرچ ڈالا۔۔۔۔۔ جب میں نے بغور دیکھا تو وہ قادیان کا جھوٹا نبی مرزا قادیانی تھا۔

میں نے اسے کہا کہ سب کو اپنا اصلی چہرہ دکھا۔۔۔۔۔

سب کو اپنی اصلیت بتا۔۔۔۔۔

سب کو اپنی غلیظ زندگی کے خفیہ گوشے دکھا۔۔۔۔۔

سب کے سامنے اپنے خبث باطن کا اظہار کر۔۔۔۔۔

سب کے سامنے اپنا کفر، زندقہ اور ارتداد بیان کر۔۔۔۔۔

سب کے سامنے اپنے عقائد باطلہ کو رو نما کر۔۔۔۔۔

سب کے سامنے اپنی جھوٹی نبوت کے راز سے پردہ اٹھا۔۔۔۔۔

سب کے سامنے فرنگی کی سازشوں کو بے نقاب کر۔۔۔۔۔

اس نے کیا بیان کیا؟

اس کے چند گوشے ”دجال قادیان“ کی صورت میں آپ کے سامنے ہیں۔۔۔۔۔

”دجال قادیان“ آپ کے ہاتھوں میں دینے کے بعد ہم قادیانیت کے خلاف آپ کے ایمانی رد عمل کے منتظر ہیں۔۔۔۔۔

یاد رکھئے۔۔۔۔۔ جتنا شدید آپ کا رد عمل ہو گا۔۔۔۔۔ اتنا ہی آپ کو نبی کریم ﷺ سے عشق ہو گا۔۔۔۔۔ کیونکہ جسے قادیانیت سے نفرت نہیں آئے جناب محمد عربی ﷺ سے محبت نہیں آئی، ہم اس کو سونپ اپنی ایمان کو پرکھتے ہیں۔

رشتہ نہ ہو قائم جو محمد سے وفا کا
جینا بھی برباد مرنا بھی اکارت

خاکپائے مجاہدین ختم نبوت
محمد طاہر رزاق

بی ایس۔ سی، ایم۔ اے (تاریخ)
تکم اکتوبر ۱۹۹۸ء لاہور

کرنیں

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله وحده والصلوة والسلام على من لا

نبی بعده

جناب محمد طاہر رزاق صاحب نے قادیانی فتنے کی تردید میں متعدد رسائل و کتب لکھ کر قیمتی خدمات انجام دی ہیں۔ ان کے قلم سے نکلی ہوئی چند کتابیں حسب ذیل ہیں:

”قادیانیت شکن“ ”مرگ مرزائیت“ ”قادیانی افسانے“ ”فتنہ قادیانیت کو پہچاننے“ ”قادیانیت کش“ ”نعمات ختم نبوت“ ”تحفظ ختم نبوت“ ”شعور ختم نبوت اور قادیانیت شناسی“

امید ہے ان کی تازہ تالیف ”دجال قادیان“ بھی ان کی پہلی کتابوں کی طرح پسند کی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ ان کی خدمات کو قبول فرمائے اور بروز حشر حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت سے سرفراز فرمائے۔

احقر نفیس الحسینی

۱۱ جمادی الاخریٰ ۱۴۱۹ھ

۳ اکتوبر ۱۹۹۸ء

گفتگو

دواڑھائی برس پرانی بات ہے میرا بڑا بیٹا اس وقت بمشکل دو برس کا تھا۔ اس نے ابھی تو تلی زبان میں باتیں شروع ہی کی تھیں۔ ایک روز ہمارے گھر میرے ایک باریش دوست تشریف لائے۔ میں ان کے ساتھ گفتگو میں مصروف ہو گیا۔ میرا بیٹا خاموشی سے پاس بیٹھ گیا۔ یہ میرے لیے بڑے اچھے کی بات تھی۔ کیونکہ سیانوں کا کہنا ہے جب بچہ خاموش بیٹھا ہو تو سمجھ لیں وہ کوئی گل کھلا رہا ہے۔ میں نے بچے کی خاموشی پر غور کیا تو پتہ چلا وہ ہر چیز سے لاتعلق ہو کر مہمان کے ”رخ انور“ پر نظر جمائے بیٹھا ہے۔ میں نے اسے مدد کر کے اس ”نظر التفات“ کی وجہ دریافت کی تو اس نے تھوڑا سا شرمناک کہا ”پاپا اس انکل نے اتنی مگرمی میں داڑھی کیوں پن رکھی ہے؟“ یہ سن کر میرے دوست نے فلک شگاف تہنہ لگایا جبکہ مجھ پر گھڑوں پانی پڑ گیا۔

قصور دراصل بچے کا بھی نہیں تھا۔ ہوا کچھ یوں تھا کہ میں نے اسے کھلونوں کی دکان سے ایک لعلی داڑھی اور موچھ لاکر دے دی تھی جسے وہ ”بوقت ضرورت“ پن کر ہم سب کو ڈراتا رہتا تھا۔ جس سے میری بیوی بڑی ٹالاں تھی۔ جب بچے کی یہ بزرگانہ عادت پختہ ہونے لگی تو اس نے ایک روز اسے پاس بٹھا کر سمجھایا ”بیٹا گر میوں میں داڑھی نہیں پہنا کرتے۔ اس سے منہ پر پھوڑے نکل آتے ہیں“ میری بیوی کا یہ نسخہ بڑا کارگر ثابت ہوا اور میرے بیٹے نے یہ ”حرکت بد“ ترک کر دی لیکن میری ”عنایت“ اور میری بیوی کی ”تا دہی کارروائی“ سے میرے بیٹے کے ذہن میں دو گر ہیں پڑ گئیں۔ اول داڑھی پہننے والی

چیز ہے جسے پہن کر لوگوں کو ڈرایا جاتا ہے۔ دوم یہ چیز گرمیوں میں نہیں پہنی جاتی۔ لہذا جو ہی اس کے سامنے ایک ایسا ”مجرم“ آیا جس نے گرمی کی پروا نہ کرتے ہوئے چہرہ داڑھی سے مزین کر رکھا تھا تو اس کا سہم جانا اور سوال کرنا فطری تھا۔

یہ واقعہ میرے لیے بڑا ”الارمنگ“ تھا کیونکہ مجھے محسوس ہوا اگر بچے کو فوری طور پر اصل صورت حال نہ بتائی گئی تو وہ کسی روز کسی ”اہل ایمان“ کے ساتھ وہ سلوک نہ کر دے جو حضرت موسیٰؑ نے بچپن میں فرعون کی گود میں بیٹھ کر اس کے ساتھ کیا تھا۔ چنانچہ میں نے مہمان کی رخصتی کے بعد اسے پاس بٹھا کر سمجھانا شروع کر دیا لیکن بد قسمتی سے میرے بیٹے کے ننھے سے ذہن میں داڑھی پہننے اور داڑھی رکھنے کا باریک سا فرق نہ پایا۔ جب میں بری طرح تھک گیا تو میں نے اس کے سامنے ایک ایسا شخص ”بطور نمونہ“ پیش کرنے کا فیصلہ کیا جس نے واقعی داڑھی رکھی ہوئی ہو۔

قارئین کرام کرنے کو میں نے یہ فیصلہ تو کر لیا لیکن آج مجھے یہ اعتراف کرتے ہوئے بڑا افسوس ہو رہا ہے کہ آنے والے دو برسوں میں مجھے ایک بھی ایسا شخص نہیں ملا جس نے داڑھی پہن نہ رکھی ہو جو سنت رسولؐ سے خلقت خدا کو ڈرانے کا کام نہ لیتا ہو۔ جس کے چہرے پر چند ہزار بال نہ ہوں، نور کے دھارے ہوں۔ لیکن ٹھہریے۔ مجھے یہ اعتراف بھی کرنے دیں کہ جب میں اس تلاش سے بری طرح تھک گیا تو مجھے لوگوں کے جھوم میں ایک ایسا انسان نظر آ گیا جس کے چہرے پر نظر ڈالنے کے بعد دل بے اختیار محبت پر مجبور ہو جاتا ہے۔ پلکیں جھک جاتی ہیں، کانوں کے پردے ”ہارڈ ڈسک“ بن جاتے ہیں اور ذہن کے اندر یہ خواہش انگڑائی لینے لگتی ہے کہ یہ شخص اسی طرح بولتا رہے، بولتا رہے اور ہم سنتے رہیں، سنتے رہیں..... اس شخص کا نام محمد طاہر رزاق ہے۔

طاہر بھائی سے میری ملاقات ۸۷-۸۶ء میں ہوئی تھی۔ ان دنوں انہوں نے ختم نبوت پر نیا نیا کام شروع کیا تھا۔ میں ان دنوں کالج میں ایف۔ اے کا طالب علم تھا۔ لاہور میاں میر میں ختم نبوت پر ایک جلسہ ہو رہا تھا جس میں میں نے تقریر کی تو مجھے انعام میں طاہر بھائی مل گئے۔ اس دور میں ان سے میری بڑی ملاقاتیں رہیں، وہ ختم نبوت کے محاذ کے بڑے جو شیلے سپاہی تھے۔ ان کی باتیں سن کر اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ادا کرنے کو جی چاہتا تھا

کہ اس نے ہمیں مرزائی نہیں بنایا ورنہ طاہر بھائی ہمارا وہی حشر کرتے جو کبھی صلاح الدین ایوبی نے رچر ڈشیردل کے لشکر کا کیا تھا۔ میں آج بارہ برس بعد اس وقت کے طاہر بھائی کے بارے میں سوچتا ہوں تو وہ مجھے ساون کا دریا لگتے ہیں جسے بہنا نہیں آتا۔ کنارے توڑنا اور دور دور تک تباہی اور بربادی پھیلانا آتا ہے۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے وہ ان دنوں ہم جیسے ”ڈھیلے مٹھے“ مسلمانوں کو بھی ”قادیا نیوں“ کا ایجنٹ ہی سمجھتے تھے۔ کیونکہ ان کا خیال تھا جو مسلمان سر پر آہنی خود اور سینے پر زرہ بکتر پہن کر ہاتھ میں تلوار اٹھا کر ”ربوہ“ کی اینٹ سے اینٹ بجانے کے لیے نہیں نکلتا اسے محمد عربی کا نام لینے کا کوئی حق نہیں۔ کفر و اسلام کی جنگ میں کافروں کے لیے بہتر سلوک کی درخواست کرنے والے لوگ مسلمان نہیں کافروں کے ساتھی سمجھے جاتے ہیں۔ وغیرہ وغیرہ۔ یقین فرمائیے میں طاہر بھائی کے ان ”باغیانہ خیالات“ سے پریشان ہو کر فوراً آگے پیچھے ہو گیا کیونکہ مجھے خطرہ تھا اگر میں مزید چند روز ان کی صحبت میں رہا تو یقیناً کسی روز گھوڑے پر سوار ہو کر ”ربوہ“ پر حملہ آور ہو جاؤں گا اور مجھے حکومت پکڑ کر انداد ہشت گردی کی عدالت میں پیش کر دے گی۔

پچھلے ماہ بارہ برس بعد طاہر بھائی سے ملاقات ہوئی تو مجھے اس طاہر بھائی اور اس طاہر بھائی میں زمین آسمان کا فرق محسوس ہوا۔ کہاں ساون کا چڑھا دریا اور کہاں ایک پرسکون عمیق سمندر، کہاں نعرے لگانے، جھنڈے لہرانے اور جڑے توڑنے والا جیالا اور کہاں ایک متحمل صوفی، عشق رسولؐ میں ڈوبا ایک وضع دار عاشق، دلیل اور منطق سے بنا ایک عالم اور دلوں پر دستک دینے والا ایک دانشور۔ مجھے نہیں معلوم ان بارہ برسوں میں طاہر بھائی پر کیا گزری۔ یہ سلوک کی کن کن منزلوں سے گزرے۔ انہوں نے عشق کے کون کون سے مراحل طے کیے، ان کا گزر کن کن ہستیوں کی بارگاہوں سے ہو اور انہوں نے عشق کے کون کون سے چشموں کا پانی پی لیا لیکن میں اتنا ضرور جانتا ہوں طاہر بھائی کا شمار تاریخ کے ان چند حضرات میں ہوتا ہے جن کے عشق کی ایک ہی جست سارے قصے تمام کر دیتی ہے۔ جو جب سوز و گداز کے گہرے پانیوں سے باہر آتے ہیں تو لفظ ان کے غلام بن چکے ہوتے ہیں۔ فقرے ”کیوں“ کی طرح ان کی چوکھٹ پر ماتھا گزر رہے ہوتے ہیں اور زبان ہاتھ باندھ کر ان کے ایک اشارہ چشم کی منتظر ہوتی ہے۔

میرا ذاتی خیال ہے لکھنا کوئی بڑی بات نہیں جس نے بھی چند برسوں تک استادوں کی جوتیاں سیدھی کی ہوں، چند کتابیں پڑھی ہوں اور غلطی سے اس کے ہاتھ ایک قلم اور چند کاغذ آگے ہوں وہ تحریر کا حشر نشر کرنے کا پورا پورا حق رکھتا ہے لیکن اللہ تعالیٰ لفظوں میں تاثیر صرف محمد طاہر زاق جیسے لوگوں ہی کو عطا کرتا ہے۔ آپ ان کی کوئی سٹراٹھا کر پڑھیں، ان کی درجنوں کتابوں میں سے کسی ایک کتاب کا کوئی ایک صفحہ کھول کر دیکھیں لفظ آپ کے ذہن میں اس طرح اتر جائیں گے جس طرح صحرا کے سینے میں شبنم کے قطرے اترتے ہیں۔ ذرا ایمان سے بتائیے ہمارے عہد میں کون ہے جسے اللہ تعالیٰ نے اتنا نوازا ہو، جسے لفظوں کا ایسا جادو ودیعت کیا ہو کہ وہ ختم نبوت جیسے خشک، علمی اور مذہبی موضوع کو ادب بنا دے۔ لوہے کو پانی کی طرح بننے پر مجبور کر دے۔

خدا گواہ ہے اگر اب طاہر بھائی میرے ہاتھ آ لگیں تو میں فوراً اپنے بیٹے کو ان کے سامنے بٹھا کر کہوں گا ”بیٹا دیکھو“ ایسے لوگ ہوتے ہیں جنہوں نے داڑھیاں پہنی نہیں ہوتیں، تم جب بڑے ہو جاؤ تو جاوید چودھری نہ بننا، طاہر بھائی بننا۔ یقین فرمائیے میری اس خواہش میں ذرہ بھر بھی صحافیانہ مبالغہ شامل نہیں۔

جاوید چودھری

روزنامہ ”جنگ“ اسلام آباد

قادیانی ----- اسلام اور پاکستان کے غدار

قادیانی دجال کے دجل و فریب سے دنیا بھر کے انسانوں، مسلمانوں اور خود قادیانیوں کو آگاہ کرنا عین عبادت ہے۔ تاکہ وہ اس گمراہی اور کفر و ضلالت سے محفوظ رہ سکیں۔ تاجدار ختم نبوت جناب رسالت ماب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عقیدت اور محبت کا تقاضا ہے کہ ہم ان کی عزت و ناموس کی جان و مال سے حفاظت کریں اور سارق تاج ختم نبوت کا ہر کہیں تعاقب کریں۔ مبارک ہیں وہ لوگ جنہوں نے قادیانیت کے خلاف جماد میں حصہ لیا اور نبی پاکؐ سے اپنی محبت کو امر بنادیا۔ ایسے تمام عشاق رسولؐ کے لیے دین و دنیا کی بشارتیں ہیں اور مردود ہیں وہ لوگ جو اس قادیانی دجال کو کسی بھی درجے میں انسان بھی گردانتے ہیں۔

قادیانیت کے خلاف جماد کرنے والے لائق افتخار لوگوں میں محمد طاہر رزاق صاحب بھی ایک مرد مجاہد اور عاشق رسولؐ ہیں جو قادیانیت کے خلاف درجن سے زیادہ کتابوں کے مصنف ہیں۔ انہوں نے قادیانیت کے خلاف اس جماد میں اپنی عمر عزیز کا ایک حصہ صرف کیا ہے۔ خدا انہیں اس کی جزا دے۔ آمین۔

زیر نظر کتاب کا نام ”دجال قادیان“ ہے۔ محمد طاہر رزاق نے اپنی اس کتاب میں جن موضوعات پر قلم اٹھایا ہے، ان میں مرزا قادیانی کا بچپن، قادیان کا بدکردار، مرزا قادیانی کا حافظہ، مشرگالی گلوچ، مرزا قادیانی کو نبی کیوں بنایا گیا؟ ایک منہ دوزبانیں، مجرم اعتراف جرم کرتا ہے اور اللہ کا گستاخ مضامین شامل ہیں۔ پھر وہ ہم سے پوچھتے ہیں کہ کیا ہم رسول اللہ کے امتی ہیں کہ ایسے دریدہ دہن کی ”امت“ کو برداشت کر رہے ہیں۔ آخر میں انہوں نے ختم نبوت کے ان پاسانوں کا ذکر کیا ہے، جنہوں نے اس راہ میں جماد کیا اور قادیانیت

کے خلاف اپنا کردار بھرپور طریقے سے ادا کیا۔

محمد طاہر رزاق نے اس کتاب میں تمام حوالے قادیانیوں کی کتابوں سے دیے ہیں۔ مرزا قادیانی کی تحریروں سے اس کے بچپن کے احوال بیان کیے گئے ہیں جس سے ایک ایسے شخص کی تصویر بنتی ہے، جس کا بچپن کسی پاکیزہ تربیت سے خالی ہو اور جو شائستگی سے ہمیشہ دور رہا ہو۔ ”قادیان کا بد کردار“ ایک ایسے شخص کا سراپا بیان کرتا ہے جو طاقتور وائن (شراب) کارسیا، افیون کا عادی، غیر محرم عورتوں سے ٹانگیں دبانے والا، غلیظ گالیاں بکنے والا، مراق اور ہسٹریا کا دائمی مریض اور مخبوط الحواس، نالائق اور ٹیچی ٹیچی خیراتی فرشتوں کے نام رکھ کر اردو، پنجابی اور انگریزی میں وحی بیان کرنے والا ایک ایسا شخص نظر آتا ہے، جو مقدس اور پاکیزہ شخصیات اور وظائف کو تماشا، تمسخر اور مذاق بنانے پر تھلا ہوا ہے۔ جو ہر لحظہ ہدیٰ، یادہ گوئی اور جھوٹ بکتا ہے اور جو نبوت و رسالت تو کیا ایک اوسط درجے کے شریف انسان کے معیار پر بھی پورا نہیں اترتا۔

”مرزا قادیانی کا حافظہ“ میں محمد طاہر رزاق نے اس کی کمزور یادداشت اور حافظہ کی داستان خود اس کی اپنی زبان سے بیان کی ہے۔ وہ جو فارسی کا محاورہ ہے ناکہ ”دروع گورا حافظہ نہ باشد“ یہ مکار اور جھوٹا اس کی تصویر ہے۔ یہ شخص مسلمانوں کو کافر کہتا، اپنے مخالفین کو گالیاں بکتا، ان کے بارے میں پیش گوئیاں کرتا اور لعنت ملامت کرتا ہے جو طاہر صاحب نے اپنے مضمون ”مسٹر ”گالی گلوچ“ میں بے نقاب کیا ہے اور بتایا ہے کہ اسے نبی اس لیے بنایا گیا تاکہ وہ مسلمانوں کے جذبہ جہاد کو سرد کر سکے۔ اس میڈان انگلینڈ نبی نے انگریزوں کی چالپوسی اور چمچہ گیری میں جہاد کی تخیخ اور اس کے خاتمے کا اعلان کیا مگر اس کی ناکامی دیکھنے کہ اسی دور میں پوری دنیا میں مسلمان جہاد کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے ہیں اور انہوں نے انگریزی استعماریت کو جزیرہ برطانیہ میں قید کر دیا ہے۔

مرزا قادیانی ہدیٰ بیان بکتے ہوئے کبھی خود کو مجدد کہتا، کبھی مسیح موعود، کبھی مهدی، کبھی نعلی نبی، کبھی بروزی نبی، کبھی خدا بن جاتا ہے، کبھی رسول۔ یہ شخص جو انسانیت کے معیار پر بھی پورا نہیں اترتا، ان مقدس مراتب کا جس قدر بے غیرتی سے استعمال کرتا رہا ہے، اس پر تو اسے راجپال سے بھی بدتر مزادینی چاہیے تھی تاکہ ایسے کذاب جنم لینا قیامت تک کے

لے بند ہو جاتے مگر شاید قدرت کو اسے لعنت ملامت کے ذریعے قیامت تک نشانِ عبرت بنانا تھا۔ لہذا اس پلید اور ننگ انسانیت کی رسی کو دراز رکھا۔ ایک اور مضمون میں ”مجرم اعتراف جرم کرتا ہے“ مصنف نے مرزا قادیانی کے نبوت کے تمام دعوؤں کو یکجا کر دیا ہے اور بتایا ہے کہ بیدن ملک اور نادانان حال کو قادیانی یہ کہہ کر دھوکہ دیتے ہیں کہ قادیانی کسی نبوت کے مدعی نہیں بلکہ وہ اسے مہدیا یا ایک فرقے کا بانی تصور کرتے ہیں۔ جس طرح دوسرے فرقے ہیں۔ اس طرح وہ لوگوں کو اپنے دام فریب میں پھانس لیتے ہیں۔ کبھی عورت کالاج دے کر، کبھی نوکری اور روزگار کا فریب دے کر۔ کبھی مالی اعانت اور تعلیمی اخراجات برداشت کرنے کا جھانسہ دے کر پھنسا لیتے ہیں۔ خود علامہ اقبال کے بھتیجے اعجاز کو چودھری ظفر اللہ نے سب ججی کالاج دی کر قادیانی بنایا۔ ایسی بے شمار مثالیں موجود ہیں۔

ظاہر صاحب نے اس کے نبوت کے جھوٹے دعاوی کو خود اس کی کتابوں سے عیاں کر دیا ہے۔ یہ بھی کتنے ستم کی بات ہے کہ دنیا میں یہ واحد مدعی نبوت ہے جو اپنے دعویٰ کی ساتھ ساتھ اپنے کردار اور قول و فعل میں بھی شرمناک حد تک جھوٹا اور عیار ہے اور متضاد دعوؤں سے سادہ لوح لوگوں کو پھانس کر اپنے جال میں لے آتا ہے۔

اس بد بخت کا سب سے شرمناک کردار یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ بھی گستاخیاں اور ہمہلیں کرنے سے باز نہیں آتا۔ ایک مضمون میں ظاہر رزاق صاحب نے قادیانیوں کی بالخصوص مرزا کی ہڈیاں گوئی کی وہ ساری بکواس اکٹھی کر دی ہے، جو خدائے ذوالجلال کے حضور شرمناک گستاخوں کی صورت میں وہ کرتا رہا ہے۔ اسی طرح نبی پاک ﷺ کی شان میں اور دیگر انبیاء کے حضور بھی اس گستاخ کی ہرزہ سرائیوں کو اس کتاب میں ان ہی کی کتب سے بے نقاب کیا گیا ہے۔ اسلام کے اندر اس فتنہ ارتداد کے بانی مرتد غلام قادیانی کی سزا رجم اور قتل ہونی چاہیے تھی۔ افسوس راجپال تو داخل جہنم ہو گیا مگر مرتدین کی یہ اولاد انگریز کی چھتر چھایا تلے قوت پکڑتی رہی اور آج کل بین الاقوامی اسلام دشمن قوتیں اور عالمی صیہونیت اس کی مربی اور پشت پناہ ہے اور وہ پوری دنیا میں کفر و ضلالت پھیلا رہے ہیں۔ یہ اسرائیل کے ایجنٹ، ہندو کے گماشتے، مغربی طاقتوں کے آلہ کار اور پاکستان اور عالم اسلام کے دشمن نمبر ایک ہیں۔

اقبال نے جن کے قرب و جوار میں قادیانیوں کے گڑھ تھے، سب سے پہلے سیاسی، عمرانی اور تمدنی سطح پر ان کے خطرناک عزائم کا ادراک کیا اور انہیں اسلام اور ہندوستان (مراد مسلم ہندوستان جو آج کل پاکستان ہے) کا غدار قرار دیا۔ اس لیے کہ قادیانی اسلام کے بنیادی عقیدے ختم نبوت کے سارق تھے اور ہندوؤں، انگریزوں اور یونینسٹوں کے ساتھ مل کر ۱۹۳۵ء کے آئین کی آڑ میں مسلم نشستوں پر قبضہ کر کے تحریک پاکستان کو سیوٹا کرنا چاہتے تھے۔ اقبال نے اسی بنا پر ان کو کافر قرار دے کر ان کو الگ اقلیت قرار دینے کا مطالبہ کیا جبکہ علماء کرام دینی اور مذہبی حوالے سے ان کے خلاف مورچہ بند تھے۔ قادیانی علامہ اقبال کے خلاف یہ پراپیگنڈہ کرتے رہتے ہیں کہ اقبال نے ۱۹۳۵ء میں حضرت سید عطاء اللہ شاہ بخاری، جو ختم نبوت کے مجاہد اعظم تھے، کے کہنے پر قادیانیوں کے خلاف سرگرمی دکھائی۔ حالانکہ وہ ان کے بارے میں پہلے نرم گوشہ رکھتے تھے۔ قادیانیوں کا یہ بیان سراسر جھوٹ ہے۔

اقبال نے ۱۹۰۲ء میں سب سے پہلے قادیانیت پر وار کیا۔ ۱۹۰۲ء میں انجمن حمایت اسلام کے جلسے میں انہوں نے مرزا قادیانی کے دعویٰ نبوت کو جھٹلاتے ہوئے کہا کہ:

اے کہ بعد از تو نبوت شد بہ ہر مضموم شرک
بزم را روشن ز نور شمع عرفان کردہ

اپنی مرتبہ کتاب "سرورِ رفتہ" میں ص ۳۰ پر غلام رسول مہرنے ایک نوٹ میں کہا کہ یہ ۱۹۰۲ء کا کلام ہے اور ظاہر ہے کہ اس کے لکھنے کی ضرورت مرزا غلام احمد قادیانی کے دعویٰ بروزیت کی بنا پر ہوئی۔ یعنی کہتے ہیں کہ تیرے بعد نبوت کا دعویٰ ہر لحاظ سے شرک فی النبوت ہے۔ خواہ اس کا مضموم کوئی ہو۔ یعنی علی اور بروزی نبوت بھی اس سے باہر نہیں۔ مئی ۱۹۰۲ء میں مخزن لاہور اور ۱۱ جون ۱۹۰۲ء میں محمد دین فوق کے رسالے پنچہ فولاد میں قادیانی مذہب کے نتائج کا تجزیہ یوں کیا۔ یاد رہے کہ یہ قادیان کی طرف سے بیعت کے جواب میں شعر لکھے۔

تو جدائی پہ جان دیتا ہے
وصل کی راہ سوچتا ہوں میں

بھائیوں میں بگاڑ ہو جس سے
اس عبادت کو کیا سراہوں میں
مرگ اغیار پر خوشی ہے تجھے
اور آنسو بہا رہا ہوں میں

یاد رہے مرزا قادیانی اپنے مخالفین کی موت کی پیش گوئیاں کرتا رہتا تھا۔

۱۹۰۳ء انجمن حمایت اسلام کے جلسے میں "فریاد امت" منعقدہ مارچ ۱۹۰۳ء میں

اقبال نے ایک نظم پڑھی جس کا دوسرا عنوان ایر گہریار تھا۔ اس میں انہوں نے یہ شعر پڑھا:

مجھ کو انکار نہیں آمد مہدی سے مگر

غیر ممکن ہے کوئی مثل ہو پیدا تیرا

اقبال نے اس شعر کے ذریعے مرزا قادیانی کے اس دعوے کو رد کر دیا کہ وہ مثل

مسیح یا مثل محمد ہے۔

۱۹۱۱ء۔۔۔۔۔ ملت بیضا پر ایک عمرانی نظر میں انہوں نے قادیانیوں کو ٹھیٹھ اسلامی سیرت

کا نمونہ کہنے کے ساتھ ساتھ انہیں نام نہاد قادیانی فرقہ کہا۔ مولانا ظفر علی خان نے اس

مقالے کے ترجمے میں "So-called" نام نہاد کا لفظ غلطی سے چھوڑ دیا جس کو قادیانیوں

نے ایک پلاٹ کیا اور اصل انگریزی مضمون دیکھنے کی کسی نے زحمت نہ کی۔ کیونکہ

قادیانیوں نے اس مضمون کا انگریزی ورژن مارکیٹ سے غائب کر دیا تھا۔

۱۹۱۳ء میں اقبال نے لکھا کہ قادیانی جماعت نبی اکرم کے بعد نبوت کی قائل ہے تو وہ

واثرہ اسلام سے خارج ہے۔

رموز بے خودی ۱۹۱۵ء میں شائع ہوئی۔ اقبال نے عقیدہ ختم نبوت کا واضح اعلان

کیا

ہے خدا بر ما شریعت ختم کرد

بر رسول ما رسالت ختم کرد

لا نبی بعدی ز احسان خدا ست

پردہ ناموس دین مصطفیٰ است

حق تعالیٰ نقش ہر دعویٰ ٹکست
تا ابد اسلام را شیرازہ بست

۱۹۱۶ء اقبال نے ۱۹۱۶ء میں ایک بیان میں کہا:

”جو شخص نبی اکرم ﷺ کے بعد کسی ایسے نبی کا قائل ہو جس کا انکار مستلزم کفر ہو تو وہ خارج از اسلام ہو گا۔ اگر قادیانی جماعت کا بھی یہی عقیدہ ہے تو وہ بھی دائرہ اسلام سے خارج ہے۔“

جون ۱۹۳۳ء اقبال نے کشمیر میں قادیانیوں کی سازشوں کے بارے میں بیان دیا کہ ”آخر میں مسلمانان کشمیر سے استدعا کرتا ہوں کہ وہ ان تحریکوں سے خبردار رہیں جو ان کے خلاف کام کر رہی ہیں اور اپنے درمیان اتحاد و اتفاق پیدا کریں۔“ (۷ جون ۱۹۳۳ء اقبال نامہ حصہ اول)

۲۰ جون ۱۹۳۳ء کو اقبال نے کشمیر میں قادیانیوں کی ریشہ دوانیوں کی بناء پر کشمیر کمیٹی کی صدارت سے استعفیٰ دے دیا۔

۱۲ اکتوبر ۱۹۳۳ء اقبال نے قادیانی اہل قلم جن میں ڈاکٹر مرزا یعقوب بیگ پیش پیش تھے کی سازشوں کے خلاف بیان دیا اور کشمیر کمیٹی کے عمدہ صدارت کی پیشکش کو فریب قرار دیا اور کہا کہ میری سمجھ میں نہیں آتا کہ ان حالات کے پیش نظر ایک مسلمان کسی ایسی تحریک میں شامل ہو سکتا ہے جس کا اصل مقصد غیر فرقہ واری کی ہلکی سی آڑ میں کسی مخصوص جماعت کا پراپیگنڈہ کرنا ہے۔“ (حرف اقبال، ص ۲۰۴)

۱۹۳۴ء نو فروری ۱۹۳۴ء کو نعیم الحق وکیل پٹنہ کو لکھتے ہیں:

جس مقدمے کی پیروی کے لیے میں نے آپ سے درخواست کی تھی اس کی پیروی چودھری ظفر اللہ کریں گے۔ چودھری ظفر اللہ خان کیونکر اور کس کی دعوت پر وہاں جا رہے ہیں، مجھے معلوم نہیں۔ شاید کشمیر کانفرنس کے بعض لوگ ابھی تک قادیانیوں سے خفیہ تعلقات رکھتے ہیں۔“ (اقبال نامہ، ص ۴۳۵)

۱۹۳۵ء اقبال نے ضرب کلیم میں اپنی نظم جماد میں قادیانیوں پر تنقید کی:

فتویٰ ہے شیخ کا یہ زمانہ قلم کا ہے

دنیا میں اب رہی نہیں سکوار کارگر
ہم پوچھتے ہیں شیخ کلیسا نواز سے
مشرق میں جنگ شر ہے تو مغرب میں بھی ہے شر
حق سے اگر غرض ہے تو زیبا ہے کیا یہ بات
اسلام کا محاسبہ، یورپ سے درگزر
دوسری نظم نبوت میں لکھتے ہیں:

وہ نبوت ہے مسلمانوں کے لیے برگِ حشیش
جس نبوت میں نہیں قوت و شوکت کا پیام
ایک نظم امامت میں لکھتے ہیں:

فتنہ ملت بیضا ہے امامت اس کی
جو مسلمانوں کو سلاطین کا پرستار کرے
انگریزوں کی قادیانیوں کی چاکری پر لکھتے ہیں

ہو اگر قوت فرعون کی در پردہ مرید
قوم کے حق میں ہے لعنت وہ کلیمِ الہی
محموم کے الہام سے اللہ بچائے
غارت گر اقوام ہے وہ صورت چنگیز

۱۹۳۶ء: ۷ اگست ۱۹۳۶ء کو ایک خط میں لکھتے ہیں "الحمد للہ کہ اب قادیانی فتنہ پنجاب

میں رفتہ رفتہ کم ہو رہا ہے۔"

پس چہ باید کرد ۱۹۳۶ء میں شائع ہوئی۔ اقبال لکھتے ہیں:

عصر من پیغمبرے ہم آفرید
آنکہ در قرآن بغیر از خود ندید
شیخ او مرد فرنگی را مرید
گرچہ گوید از مقام بایزید
گفت دیں را رونق ز محکومی است
زندگانی از خودی محرومی است

دولت اغیار را رحمت شمرد
رقص ہا گرد کلیسا کرد و مرد

۱۹۳۷ء قادیانی مذہب از پروفیسر الیاس برنی، موصول ہونے پر اقبال نے لکھا:
”قادیانی تحریک یا یوں کہئے کہ بانی تحریک کا دعویٰ مسئلہ بروز پر مبنی ہے۔
مسئلہ بروز کی تحقیق تاریخی لحاظ سے از بس ضروری ہے۔ جہاں تک مجھے معلوم
ہے، یہ مسلہ عجمی مسلمانوں کی ایجاد ہے اور اصل اس کی آریں ہے۔ نبوت کا
سامی تخیل اس سے بہت ارفع و اعلیٰ ہے۔ میری ناقص رائے میں اس مسئلہ کی
تاریخی تحقیق قادیانیت کا خاتمہ کر دے گی۔“

ہماری اس تحریر سے واضح ہو گیا ہو گا کہ اقبال نے کسی اضطرابی کیفیت میں
قادیانیوں کے خلاف مہم جوئی نہیں کی تھی بلکہ ایک پورے تسلسل کے ساتھ ۱۹۰۲ء سے
اپنی وفات تک قادیانیت کے خلاف جہاد کیا۔ علمائے عظام نے دینی اور مذہبی محاذ پر اور
اقبال نے عمرانی، تمدنی، اور سیاسی محاذ پر اس کفرستان پر ہیمن حملے کیے اور ۱۹۳۵ء میں
تحریک پاکستان جو مسلمانوں کی برصغیر میں آزادی کی آخری کوشش تھی، کو سیوا تاثر کرنے کی
قادیانی کوششوں کی وجہ سے کھل کر انہیں اقلیت قرار دینے کا مطالبہ کیا تاکہ وہ مسلمانوں کی
نشستوں پر منتخب ہو کر مسلمانوں کو ہندو اور انگریز کا غلام نہ بنا دیں۔ برصغیر میں قادیانی
ریاست کی تشکیل کے لیے قادیانیوں نے کبھی پنجاب، کبھی کشمیر اور کبھی بلوچستان کو اپنی
سرگرمیوں کا مرکز بنایا جنہیں ہندوگان خدا نے ناکام بنا دیا۔

اقبال کے نزویک قادیانی۔۔۔۔۔ اسلام اور پاکستان کے غدار ہیں۔ یہ بھارت کے
ایٹمی دھماکوں پر ایک دوسرے کو مبارک بادیں دیتے ہیں اور پاکستان کے ایٹمی دھماکوں کے
خلاف بھارت کی حمایت کرتے ہیں اور اسے امن کے لیے خطرہ قرار دیتے ہیں۔

گزشتہ دنوں ”قادیانیت کے کر توت“ کے نام سے روزنامہ امت کراچی میں میرا
کالم شائع ہوا۔ جو نقیب ختم نبوت ملتان میں بھی شائع ہوا۔ یہ دیباچہ اس وقت تک مکمل
نہیں ہو گا جب تک اس میں میں اپنا کالم شامل نہ کر دوں۔ تو وہ نذر قارئین ہے:

امت مسلمہ سے جذبہ جہاد کو ختم کرنے اور مسلمانوں کی وحدت کو پارہ پارہ کرنے

کے لیے انگریز استعماریت نے برصغیر بالخصوص پنجاب میں قادیانیت کا شرمناک پودا کاشت کیا جو مسلمانوں کے لیے برگِ حشیش سے بھی زیادہ زہرناک اور افسوس ناک ثابت ہوا ہے۔ یہ مسلمانوں کے سینے کا ناسور ہے جو گزشتہ ایک صدی سے فتنہ در فتنہ پھیل رہا ہے۔ انگریز کی غلامی کو مرغوب بنانے کی رومانیت اس کا بنیادی وظیفہ رہا ہے۔ ختم نبوت کے چور جسے اقبال نے شرک فی النبوت قرار دیا، ایک ایسے بد بخت، ہڈیاں گو، جس پر ست اور غلیظ انسان کو نبی، مجدد اور مسیح موعود کے طور پر پیش کرتے رہے جو اپنی اخلاق بانگلی کے سبب انسان کھلانے کا بھی مستحق نہیں تھا۔ انگریز کی ٹوہ چاٹنے والا یہ شخص اور اس کی کفر امت شروع سے ہی مسلمانوں کو کافر قرار دیتی اور ان کے خلاف سازشیں بنتی نظر آتی ہے۔ اسی لیے اقبال نے اسے غیر مسلم اقلیت قرار دینے کا اعلان کیا تاکہ عام مسلمان ان سے دھوکہ نہ کھائیں اور یہ مسلمانوں کے اندر نقب نہ لگاسکیں۔

مرزا بشیر الدین محمود جو قادیانیوں کا دوسرا خلیفہ تھا، ایک بہت بڑا سازشی ذہن تھا۔ اس نے کشمیر کمیٹی کی آڑ میں اور کشمیری مسلمانوں کی آزادی کے پردے میں کشمیر میں قادیانی مبلغ بھیجے اور انگریز کی ملی بھگت سے کشمیر کو قادیانی ریاست میں تبدیل کرنے کا کھیل کھیلتا رہا۔ وہ کشمیر کمیٹی کی کارروائیوں کا مخبر تھا اور کشمیر کی آزادی کے لیے ہونے والی کوششوں سے انگریزوں کو آگاہ رکھتا۔ علامہ اقبال اور کچھ دوسرے لوگوں نے اسی لیے اس کشمیر کمیٹی سے علیحدگی اختیار کر لی اور اس بد بخت کو اس کی صدارت سے مستعفی ہونا پڑا۔ قادیانیوں کی فرمانبرداری کے صلے میں چودھری ظفر اللہ کے ذریعے پنجاب میں قادیانیت کو منظم کیا۔ ظفر اللہ نے اور دوسرے بااثر قادیانیوں نے مسلمان نوجوانوں کو نوکریوں، عورتوں اور دولت کے لالچ دے کر قادیانیت کی طرف راغب کیا۔ خود شیخ اعجاز احمد جو علامہ اقبال کے سگے بھتیجے تھے، ظفر اللہ کی طرف سے سب ججی کے لالچ میں آکر قادیانی ہو گئے۔ خاندان اقبال میں یہ واحد روسیا تھا جس نے اپنے مقدر میں قادیانیت کی ذلت لکھی۔ جبکہ اس کے باپ، بیٹوں اور بیٹیوں نے قادیانیت کو ہتکار دیا۔

قادیانیت نے سرفضل حسین اور چودھری ظفر اللہ کے توسط سے یونینسٹ پارٹی اور مسلم لیگ میں گھس کر ۱۹۳۵ء کے دستور کے تحت ہونے والے انتخابات میں مسلم

نشستوں پر قادیانی امیدوار کھڑے کرنے کا منصوبہ بنایا تاکہ یہ قادیانی مسلم نشستوں پر منتخب ہو کر اور مسلم عوام کے نمائندے بن کر قیام پاکستان کے مطالبے کو سیوا کر سکیں اور انگریز کی غلامی کو رحمت قرار دے کر برصغیر کی تقسیم کو ناکام بنا دیں۔ علامہ اقبال نے ۱۹۳۵ء سے جب شدید سے قادیانیوں کے کافر اور غیر مسلم اور امت اسلامیہ سے اخراج کا جو مطالبہ کیا، اس کے پیچھے ان کی تحریک پاکستان کو ناکام بنانے کی سازش کو توڑنا تھا۔ چنانچہ قیام پاکستان کے بعد جب انہیں غیر مسلم قرار دیا گیا تو یہ بھی اقبال کے ہی خواب کی تعبیر تھی۔ کیونکہ برصغیر کے تمام علماء متفقہ طور پر انہیں غیر مسلم اور کافر قرار دے چکے تھے۔ خود قادیانی بھی اپنی تحریروں میں مسلمانوں کو کافر کہتے ہیں۔ صرف وہ مسلمانوں میں نقب لگانے کے لیے چولے پر چولا بدلتے رہتے ہیں۔ کتنی ستم ظریفی ہے کہ وہ تو مسلمانوں کو کافر سمجھیں۔ مسلم قائدین اور عوام کے جنازوں میں شرکت نہ کریں۔ (چودھری ظفر اللہ نے وزیر خارجہ ہوتے ہوئے بھی قائد اعظم کی نماز جنازہ میں شرکت نہیں کی تھی) مگر چاہیں کہ انہیں مسلمانوں سے الگ نہ کیا جائے۔ فتم نبوت کی ان کی بھونڈی اور ناکارہ تاویلات جھوٹ اور فریب کاری کا پلندہ ہیں۔ اقبال کے بقول

اے کہ بعد از تو نبوت شد بہ ہر مفہوم شرک

نبی پاک کے بعد نبوت کا خفی، جلی، بروزی، ملی، مہدویت، مسیح موعودیت اور مجددیت کا دعویٰ کفر و زندقہ کے سوا کچھ معنی نہیں رکھتا جبکہ اس کا دعویٰ قادیانی کذاب جیسا جھوٹا، جنس پرست، انگریز کے تلوے چاٹنے والا، اخلاق باخستہ انسان ہو۔ یہ امت مسلمہ میں نفاق کا فتنہ تھا جو ذلیل و رسوا ہوا۔

غلام قادیانی کی امت کا ذبہ نے بلوچستان میں بھی اپنی مرکزیت قائم کرنے کی کوشش کی مگر کشمیر اور پنجاب کی طرح یہاں بھی وہ ذلیل و خوار ہوئی۔ ان کی پاکستان دشمنی یوں تو ان کے ہر اقدام سے واضح ہے تاہم ان کے چند بیانات ملاحظہ ہوں:

”میں قبل ازیں بتا چکا ہوں کہ ہم ہندوستان کی تقسیم پر رضامند ہوئے تو خوشی سے نہیں بلکہ مجبوری سے اور ہم کوشش کریں گے کہ کسی نہ کسی طرح پھر متحد ہو جائیں۔“ (الفضل، ۱۶ مئی ۱۹۳۷ء، خطبہ مرزا محمود)

”ہم نے یہ بات پہلے بھی کئی بار کہی ہے اور اب بھی کہتے ہیں کہ ہمارے

نزویک پاکستان کا بننا اصولاً غلط ہے۔“ (الفضل ۱۲، ۱۳ اپریل ۱۹۴۷ء)

”ممکن ہے عارضی طور پر کچھ انتراق (علیحدگی) ہو اور کچھ وقت کے لیے

دونوں قومیں (ہندو و مسلم) جدا جدا رہیں مگر یہ حالت عارضی ہوگی اور ہمیں

کوشش کرنی چاہیے کہ جلد دور ہو جائے۔ بہر حال ہم چاہتے ہیں اکھنڈ

ہندوستان بنے۔“ (الفضل، ۱۷ مئی ۱۹۴۷ء)

قادیانی خود مسلمانوں کو کافر سمجھتے ہیں۔ مرزا محمود لکھتا ہے:

”کل مسلمان جو حضرت مسیح موعود کی بیعت میں شامل نہیں ہوئے، خواہ

انہوں نے حضرت مسیح موعود کا نام بھی نہیں سنا، وہ کافر اور دائرہ اسلام سے

خارج ہیں۔“ (”آئینہ صداقت“، ص ۳۵۔ قادیانیوں کی کتاب)

قادیانیت سے بیزاری کے بارے میں علامہ اقبال لکھتے ہیں:

”ذاتی طور پر میں اس تحریک سے اس وقت بیزار ہوا جب ایک نئی

نبوت۔۔۔ بانی اسلام کی نبوت سے اعلیٰ تر نبوت۔۔۔ کا دعویٰ کیا گیا اور تمام

مسلمانوں کو کافر قرار دیا گیا۔ بعد میں یہ بیزاری بغاوت کی حد تک پہنچ گئی جب

میں نے تحریک کے ایک رکن کو اپنے کانوں سے آنحضرتؐ کے متعلق نازیبا

کلمات کہتے سنا۔“ (اقبال اور احمدیت، ص ۵۹، بی۔ اے ڈار)

مندرجہ بالا اقتباسات سے یہ بات واضح ہے کہ یہ گستاخان نبوت کافر اور پاکستان

دشمن ہیں اور اکھنڈ بھارت کے منصوبے پر عمل کر رہے ہیں لہذا ان کا وجود پاکستان میں

ناقابل برداشت ہے اور وہ پاکستان میں بیٹھ کر اور پاکستان سے باہر آئین پاکستان کو اس لیے

ختم کرنے کے درپے ہیں کہ اس میں انہیں کافر اور غیر مسلم قرار دیا گیا ہے اور یہ آئین

پاکستان میں ان کے لیے کوئی گنجائش نہیں رکھتا۔ مرزا طاہر نے موجودہ عدلیہ، انتظامیہ اور

صدر لغاری کے تنازعے میں قادیانیت کے اس مذموم مقصد کو حاصل کرنے کی کوشش کی

کہ کس طرح یہ بحران شدید ہو، آئین معطل ہو جائے اور قادیانیوں کو کھل کھیلنے کا موقع

مل جائے۔ مگر خدا نے انہیں ننگا کر کے ان کے مقاصد ناکام بنا دیے ہیں۔ مشہور قادیانی

سائنس دان عبد السلام نے بھی پاکستان دشمنی میں پاکستان کے ایٹمی پلانٹ کے راز حکومت امریکہ کو پہنچائے جس پر جنرل ضیاء نے کہا کہ ”اس کتیا کے بچے کو کبھی میرے سامنے نہ لانا۔ یہ امریکہ، برطانیہ اور یہودیوں کا گماشتہ ہے“ اور اس لیے اسے نوبل انعام دے دیا گیا۔

یہ واقعہ اس وقت پیش آیا جب شہید اسلام صدر جنرل محمد ضیاء الحق امریکہ تشریف لے گئے اور انہوں نے کہا کہ پاکستان کوئی ایٹم بم نہیں بنا رہا۔ ہم تو پر امن مقاصد کے لیے ایٹمی پراجیکٹ پر کام کر رہے ہیں تو امریکیوں نے غصے میں آکر جنرل ضیاء کو ایک کمرے میں جانے کو کہا جہاں کوٹہ کے ایٹمی پلانٹ کا ماڈل رکھا ہوا تھا۔ جب جنرل ضیاء اس کمرے میں داخل ہو رہے تھے تو دوسرے دروازے سے نکلنے ہوئے جنرل ضیاء نے ڈاکٹر عبد السلام کو دیکھ لیا تھا۔

عالمی تحریک تحفظ نبوت کے ممتاز راہنما حضرت مولانا حافظ محمد یوسف لدھیانوی نے بھی ۱۵ جون ۱۹۸۰ء کے روزنامہ جنگ لاہور میں ایک بیان میں کہا کہ صدر ایوب خان مرحوم کی بڑی خواہش تھی کہ پاکستان ایٹمی طاقت بن جائے۔ چنانچہ انہوں نے وفاقی وزیر قانون شیخ خورشید کے بھائی منیر احمد خان کی سربراہی میں ایٹمی کمیشن تشکیل دیا مگر ڈاکٹر عبد السلام کے یہ شاگرد تھے اور حلقہ اثر میں تھے۔ چنانچہ ان دونوں کی وجہ سے اس سمت میں کوئی پیش رفت نہ ہو سکی۔ یہ دونوں امریکہ اور برطانیہ کو پاکستان کی ان سرگرمیوں سے باخبر رکھتے رہے۔ ۱۹۷۱ء کے بعد جب ذوالفقار علی بھٹو اقتدار پر آئے تو انہوں نے ایٹمی طاقت بننے کا فیصلہ کیا۔ چنانچہ ڈاکٹر عبد القدیر کو اس منصوبے پر کام سونپا گیا۔ ان کے خلاف بھی ڈاکٹر عبد السلام اور ڈاکٹر منیر احمد خان سازشیں کرتے رہے جنہیں جنرل ضیاء الحق نے ناکام بنایا۔ جب تک ڈاکٹر عبد السلام زندہ رہا، پاکستان ایٹمی طاقت نہ بن سکا۔ اس مردود کے واصل جنم ہونے کے بعد ڈاکٹر عبد القدیر کی سربراہی میں پاکستان ایٹمی طاقت بن گیا۔ یوں قادیانیوں کی پاکستان کے خلاف یہ سازش بھی ناکام ہوئی۔ ذوالفقار علی بھٹو کا یہ اعزاز ہے کہ انہوں نے پاکستان میں ایٹمی توانائی کا آغاز کیا اور انہوں نے ہی قادیانیوں کو سیاسی مصلحت کے تحت ہی سہی اقلیت قرار دے کر اس فتنے کا گھیرا تنگ کر دیا۔

ہر قادیانی جہاں بھی بیٹھا ہے، وہ کافر اور غدار ہے۔ پاکستان اور اسلام کا دشمن ہے۔

رسول پاک مگاستاخ ہے لہذا انہیں تمام اہم اور کلیدی مناصب سے فوراً الگ کر دیا جائے۔ ان پر کڑی نظر رکھی جائے تاکہ ان کی سازشوں کو ناکام بنایا جاسکے اور اگر ممکن ہو تو انہیں آہستہ آہستہ پاکستان سے نکال دیا جائے۔ اس لیے کہ ہمارے ایمان اور پاکستان کی سلامتی کا یہ تقاضا ہے۔ پاکستان کے خلاف سازشوں میں عیسائیوں، ہندوؤں اور یہودیوں کے ایجنٹ ہیں۔ ان کو پالنا اور ان سے صرف نظر خود کشی کا راستہ ہے۔ حکومت پاکستان کو فوری طور پر ایسے اقدامات کرنے چاہئیں کہ ان کے گرد گھیرا تنگ سے تنگ ہوتا چلا جائے۔ یہ ہمارے ایمان اور ملک کی سلامتی کا تقاضا ہے۔ ان سے ہر رعایت خود سے دشمنی کے مترادف ہے۔ ملک کے حساس اور مالیاتی اداروں میں جہاں قادیانی گھس کر سازشیں کر رہے ہیں، وہاں خوشی اس بات کی بھی ہے کہ وہاں قادیانیت کے خلاف بھی کئی مجاہد صف آرا ہیں۔ محمد طاہر رزاق ان ہی سرفروشان اسلام میں سے ایک ہیں۔ محمد متین خالد اور محمد سلیم ساقی بھی انہی میں شامل ہیں۔ میں اس بات پر ناز کر سکتا ہوں کہ مجھ جیسے حقیر اور بے مایہ شخص کو انہوں نے اعزاز بخشا کہ میں ان کی کتاب کا دیباچہ لکھوں۔ میں نے شیخ اعجاز احمد کی ”مظلوم اقبال“ اور قادیانی مشنری، شیخ عبد الماجد کی زہرناک تحریروں پر تنقید کی جس پر قادیانی میرے خلاف محاذ آرائی کر رہے ہیں۔ میں اس مہم بازی کا کھل جوا ب اپنی زیر تصنیف کتاب ”قادیانی کذاب“ میں دوں گا۔ اس کے لکھنے میں بعض میری نجی مشکلات خارج ہیں مگر میں اپنے فرض سے غافل نہیں۔ عبد المجید ساجد خان صاحب بھی میری تحریک پر مسکت جوا ب دے چکے ہیں۔ انشاء اللہ یہ سلسلہ جاری رہے گا۔ غلامان محمد رحمۃ اللہ علیہ کسی چوراچکے کو تاج ختم نبوت چھیننے کی اجازت نہیں دیں گے۔ کاش مسلمان فرقہ پرستیوں کے حصار سے نکل کر ایک دوسرے کے خلاف الجھنے کی بجائے اللہ اور اس کے رسول کے ان گستاخوں کو لگام ڈالیں اور آپس کی فرقہ بندیوں میں تو انائی ضائع کرنے کی بجائے متحد ہو کر اسلام اور پاکستان کے ان غداروں کا محاصرہ کریں۔

ڈاکٹر وحید عشرت

ڈپٹی ڈائریکٹر اقبال اکادمی، پاکستان

اللہ کا گستاخ

- اُس نے تختِ الوہیت پر بیٹھ کر کہی۔
- اس نے عقیدہ توحید کو جس جس کرنے کی ناپاک جارت کی۔
- وہ خدا کی بیوی، خدا کا بیٹا، خدا کی رُوح اور خدا بن بیٹھا۔
- اُس نے کہا خدا میرے مُنہ سے بولتا ہے۔
- اُس نے کہا خدا میرے اندر حلول کر جاتا ہے۔
- اُس نے کہا کہ اللہ مجھے قادیاں میں رسول بنا کر بھیجا ہے اور مجھ پر قرآن دوبارہ نازل کیا ہے۔
- نرود صفت، فرعونِ خصلت، شدادِ فطرت، مسیحا کذابِ طینت اور ابنِ سبا سرشتِ مرزا قادیانی جہنمِ کافی کی اللہ کی بارگاہ میں کی گئی سنگین گستاخیوں کی چند جھلکیاں۔

اللہ تعالیٰ جو ہم سب کا خالق ہے۔

جو ہم سب کا مالک ہے۔

جو ہم سب کا رازق ہے۔

جو ہم سب کا رب ہے۔

جس نے انسان کو اس دنیا میں اپنا خلیفہ بنا کر بھیجا۔

جو ماں سے زیادہ کریم اور باپ سے زیادہ شفیق ہے۔

جو انسانوں سے سمندروں کی گہرائیوں اور آسمان کی وسعتوں سے زیادہ محبت

کرتا ہے۔

جس کی طرف بندہ اگر چل کے جائے تو وہ بندے کی طرف بھاگ کے آتا

ہے۔

جو ماں کے پیٹ کی تاریکیوں میں بچے کے لیے غذا کا اہتمام کرتا ہے۔

جو انسان کے دنیا میں آتے ہی ماں کی چھاتیوں سے دودھ کے چشمے جاری کر

دیتا ہے۔

جس نے انسانوں کی مہمانداری کے لیے سبزے کی مٹلی چادریں بچھائیں۔

جس نے دراز قامت اشجار کا ٹھنڈا سایہ مہیا کیا۔

جو آسمان سے بارش برساتا اور زمین سے غلہ اگاتا ہے۔

جس نے پھلوں سے لدے باغات اور مہکتے گلستان سجائے۔

جس نے چرخ نیلوفر پر مہ و نجوم کی محفلیں آراستہ کی ہیں۔

جس نے بزم ہستی میں قوس و قزح کے رنگ بکھیرے ہیں۔

جس کے حکم سے اس عروس کائنات میں تتلیاں رقصاں اور عنادل نغمہ سرا

ہیں۔

جس نے انسانوں کی راہنمائی کے لیے ایک لاکھ چوبیس ہزار انبیائے کرام کو

دنیا میں مبعوث فرمایا۔

جس نے اپنے محبوب خاتم النبیین محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں بھیج کر انسانیت پر احسان عظیم کیا۔

جس نے قرآن مجید جیسی کتاب ہدایت نازل کر کے ہمیں ہدایت کی روشنی سے نوازا ہے۔

جس نے ہمیں امت محمدیہ میں پیدا کر کے ہمارے سروں پر خیر الامم کا تاج سجایا ہے۔

اس کے ہم پر اتنے احسانات کہ اگر ہمیں عمر نوح ملے اور زبان ہر لمحہ اس منم حقیقی کا شکر ادا کرتی رہے تو اس کا شکر ادا نہیں ہو سکتا۔

اس کے ہم پر اتنے انعامات کہ انعامات کے بوجھ سے ہماری گردن نہیں اٹھ سکتی۔

اس کی ہم پر اتنی عنایات کہ اگر ہمارے جسم کے ہر رگ و ریشے کو زبان ملے تو اس عظیم محسن کی عنایات شمار نہیں ہو سکتیں۔

اس لیے۔۔۔۔۔ ساری حمد اس کے لیے۔۔۔۔۔ ساری ثناء اس کے لیے۔۔۔۔۔

ساری تعریفیں اس کے لیے۔۔۔۔۔ ساری توصیفیں اس کے لیے۔۔۔۔۔ ساری بڑائی اس کے لیے۔۔۔۔۔

ساری کبریائی اس کے لیے۔۔۔۔۔ ساری عظمتیں اس کے لیے۔۔۔۔۔ ساری رفعتیں اس کے لیے۔۔۔۔۔

ساری عبادتیں اس کے لیے۔۔۔۔۔ ساری ریاضتیں اس کے لیے۔۔۔۔۔ سارے رکوع اس کے لیے۔۔۔۔۔

سارے سجود اس کے لیے۔۔۔۔۔ سارے سجدے اس کے لیے۔۔۔۔۔ لیکن فرنگی نے غلام ہندوستان میں اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس پر حملہ آور ہونے کے لیے ایک خوفناک منصوبہ تیار کیا اور اس منصوبہ کو عملی جامہ پہنانے کے لیے قادیان کے ایک بدہنیت مرزا غلام احمد قادیانی سے نبوت کا دعویٰ کرایا اور اس کے منہ میں انتہائی

زہریلی زبان رکھی۔ اس دریدہ دہن نے اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس کے بارے میں وہ ہڈیان بکے کہ چٹانوں کے جگر پاش پاش ہو جائیں اور نمود، شداد اور فرعون کے ماتھوں پر بھی شرم سے ہیمنہ آجائے۔ فرنگی نے یہ بھیانک سازش اس لیے تیار کی کہ وہ غلام ہندوستان کے مسلمانوں کے دلوں سے اللہ کی عظمت و کبریائی نکالنا چاہتا

تھا۔ وہ اسلامیان ہند کے ذہنوں سے اللہ کا تقدس نوج لینا چاہتا تھا۔ وہ ملت اسلامیہ

کے خیالوں سے اللہ کی محبت میں روشن چراغوں کو بجھا دینا چاہتا تھا۔ وہ اللہ اور مسلمانوں کے درمیان تعلق کی مضبوط رسی کو کاٹ دینا چاہتا تھا۔ مرزا قادیانی نے رب ذوالجلال کے بارے میں جو آوارہ زبان استعمال کی، جو ہرزہ سرائی کی، جو ہڈیان بکے، جو بکواس کیے، جو مغلظات تھوکیں، جو خرافات کہیں، جو زہراگلا، جو ارتدادی و زندیقی تیر چلائے، جس لچرین کا مظاہرہ کیا، جس بے ہودگی کا کھیل کھیلا اور خداوند قدوس پر جو تہمتیں لگائیں، جو الزامات دھرے اور اللہ سے جو جھوٹ منسوب کیے، انہیں بیان کرنے کو قطعاً جی نہیں چاہتا۔ انہیں لکھنے سے طبیعت پہ گرانی اور دل پر شدید بوجھ محسوس ہوتا ہے۔ لیکن میں قلم کی زبان اور کانڈ کے لاؤڈ سپیکر سے ایک صدا لگانا چاہتا ہوں اور اس صدا کو ہر مسلمان کے کانوں سے گزار کر ذہنوں میں پیوست کرنا چاہتا ہوں تاکہ ہر مسلمان کو معلوم ہو جائے کہ قادیانی اس کے رب کے ساتھ کیا سلوک کر رہے ہیں؟ کیونکہ اگر روز جزا اللہ نے ہم سے پوچھ لیا:

مجھ سے جنت مانگنے والے!

مجھ سے آتش جہنم سے پناہ مانگنے والے!

میرے عرش کے زیر سایہ آنے کی درخواست کرنے والے!

جب قادیانیوں نے میری عزت و ناموس پر حملہ کیا تھا۔۔۔ اس وقت میرے لیے تو نے کیا کیا؟

آئیے ابو جہل دل اور غمناک آنکھوں کے ساتھ جگر سوز قادیانی عقائد پڑھتے

ہیں۔۔۔۔ اور آخرت کے سوال کے جواب کے لیے قادیانیوں کے خلاف اپنے دلوں میں جہاد کی منصوبہ بندی کرتے ہیں!!!

○ ”میں (مرزا) نے خواب میں دیکھا کہ میں خود خدا ہوں۔ میں نے یقین کر لیا کہ میں وہی ہوں۔“ (آئینہ کمالات اسلام، ص ۵۶۳، مندرجہ روحانی خزائن، ص ۵۶۳، ج ۵، مصنفہ مرزا قادیانی)

○ ”خدا قادیان میں نازل ہوگا۔“ (البشری، جلد ۱، ص ۵۶، مصنفہ مرزا قادیانی)

○ ”میں (خدا) نماز پڑھوں گا، روزہ رکھوں گا، جاگتا ہوں اور سوتا ہوں۔“

(البشری، جلد دوم، ص ۷۹، مصنفہ مرزا قادیانی)

○ ”میں (خدا) خطا کروں گا۔ میں اپنے رسول کے ساتھ محیط ہوں۔“

(البشری، جلد دوم، ص ۷۹، مصنفہ مرزا قادیانی)

○ ”وہ خدا جو ہمارا خدا ہے، ایک کھا جانے والی آگ ہے۔“ (ملخص) (سراج

منیر، ص ۵۵، مندرجہ روحانی خزائن، ص ۵۷، ج ۱۲، مصنفہ مرزا قادیانی)

○ ”وہ خدا جس کے قبضے میں ذرہ ذرہ ہے اس سے انسان کہاں بھاگ سکتا

ہے۔ وہ فرماتا ہے کہ میں چوروں کی طرح پوشیدہ آؤں گا۔“ (تجلیات الہیہ، ص ۱،

مندرجہ روحانی خزائن، ص ۳۹، ج ۲۰)

○ ”قیوم العالمین (اللہ تعالیٰ) ایک ایسا وجود اعظم ہے جس کے لیے بے شمار

ہاتھ، بے شمار پیر اور ہر ایک عضو اس کثرت سے ہے کہ تعداد سے خارج اور انتہا

عرض اور طول رکھتا ہے اور تیندوے کی طرح اس وجود اعظم کی تاریں بھی ہیں جو

صفحہ ہستی کے تمام کناروں تک پھیل رہی ہیں۔“ (توضیح الرام، ص ۷۵، مندرجہ

روحانی خزائن، ص ۹۰، ج ۳، مصنفہ مرزا قادیانی)

○ ”اے مرزا! تو مجھ سے ایسا ہے جیسے میرے کان۔“ (اخبار البدر قادیان،

۲۶ فروری ۱۹۰۸ء)

○ ”انت منی بمنزلتہ اولادی۔ اے مرزا تو مجھ سے میری اولاد

جیسا ہے۔“ (اربعین ۴ حاشیہ ص ۲۳، مندرجہ روحانی خزائن، ص ۲۵۲، ج ۱۷،

مصنفہ مرزا قادیانی)

○ ”خدا نے مجھے (مرزا) الہام کیا کہ تیرے گھر میں ایک لڑکا پیدا ہوگا۔ کان

اللہ نزل من السماء۔ گویا خدا آسمانوں سے اتر آیا۔“ (حقیقتہ الوحی،

ص ۹۵، مندرجہ روحانی خزائن، ص ۹۸-۹۹، مصنفہ مرزا قادیانی)

○ ”خدا نکلنے کو ہے۔ انت منی بمنزلہ بروزی۔ تو (مرزا) مجھ (خدا)

سے ایسا ہے جیسا کہ میں (خدا) ہی ظاہر ہو گیا ہوں۔ (سرورق آخری ریویو، جلد ۵،

شمارہ ۳، ۱۵ مارچ ۱۹۰۶ء، الہام، تذکرہ ص ۶۰۳، طبع ۴)

○ ”خاطبني الله بقوله اسمع يا ولدي۔ اللہ تعالیٰ نے مجھ

سے یہ کہہ کر خطاب کیا کہ اے میرے بیٹے سن۔" (البشری، جلد ۱، ص ۴۹)

○ "خدا مجھ سے ہے اور میں خدا سے ہوں۔" (رسالہ دافع البلاء، ص ۶، مطبوعہ ضیاء الاسلام پریس قادیان، اپریل ۱۹۰۲ء)

○ "خدا نے مجھ کو فرمایا کہ تو ہمارے پانی سے ہے اور لوگ قتل سے ہیں۔" (انجام آتھم، ص ۵۶، ربیعین نمبر ۳، ص ۴۲، مصنفہ مرزا قادیانی)

○ "خدا نے فرمایا، اے غلام احمد تو میرا سب سے بڑا نام ہے۔" (اربعین نمبر ۲، ص ۳۵)

○ "اے چاند اور اے سورج تو مجھ سے ہے اور میں تجھ سے ہوں۔" (البشری، جلد دوم، ص ۱۰۴، ۲۶ دسمبر ۱۹۰۵ء، مصنفہ مرزا قادیانی)

○ "تیری منزلت میرے نزدیک ایسی ہے جسے خلقت نہیں جانتی، تو مجھ سے بمنزلہ میرے عرش کے ہے۔" (انت منی بمنزلہ عرشى) (البشری جلد دوم، ص ۹۰، ص ۱۳۵، مصنفہ مرزا قادیانی)

○ "تیرا بھید میرا بھید ہے۔" (سرکٹ سری) (البشری، جلد دوم، ص ۱۲۹، مصنفہ مرزا قادیانی)

○ "تو مجھ سے بمنزلہ میری روح کے ہے۔" (انت منی بمنزلہ روحى) (البشری، جلد دوم، ص ۱۳۷، مصنفہ مرزا قادیانی)

○ مرزا قادیانی کا ایک مرید قاضی یار محمد اپنے ٹریکٹ نمبر ۳۴ موسومہ "اسلامی قربانی" میں لکھتا ہے۔

"حضرت مسیح موعود (مرزا) نے ایک موقع پر اپنی حالت یہ ظاہر فرمائی کہ کشف کی حالت آپ پر طاری ہوئی گویا کہ آپ عورت ہیں اور اللہ تعالیٰ نے رجولیت کی طاقت کا اظہار فرمایا۔ سمجھنے والے کے لیے اشارہ کافی ہے۔" (ص ۱۲)

○ "میرا نام ابن مریم رکھا گیا اور عیسیٰ کی روح مجھ میں نفع کی گئی اور استعارہ کے رنگ میں حاملہ ٹھہرایا گیا۔ آخر کئی مہینہ کے بعد جو مدت حمل) دس مہینہ سے زیادہ نہیں مجھے مریم سے عیسیٰ بنایا گیا۔ پس اس طور سے میں ابن مریم ٹھہرا۔" (کشتی نوح، ص ۴۶-۴۷ مندرجہ روحانی خزائن، ص ۵۰، جلد ۱۹، مصنفہ مرزا قادیانی)

○ ”بابو الہی بخش چاہتا ہے کہ تیرا حیض دیکھے یا کسی پلیدی اور ناپاکی پر اطلاع پائے لیکن خدا تعالیٰ تجھے اپنے انعامات دکھائے گا جو متواتر ہوں گے۔ تجھ میں حیض نہیں بلکہ وہ بچہ ہو گیا ہے۔“ (تمہ حقیقت الوحی، ص ۱۴۳، اربعین نمبر ۴، ص ۱۹، مصنفہ مرزا قادیانی)

○ ”کیا کوئی عقلمند اس بات کو قبول کر سکتا ہے کہ اس زمانہ میں خدا استثنا تو ہے مگر بولتا نہیں (یعنی وحی نہیں بھیجتا) پھر اس کے بعد یہ سوال ہو گا کہ بولتا کیوں نہیں کیا زبان پر کوئی مرض لاحق ہو گئی ہے۔“ (ضمیمہ براہین پنجم، ص ۱۴۴، مندرجہ روحانی خزائن، ص ۳۱۲، جلد ۲۱، مصنفہ مرزا قادیانی)

○ ”مجھ سے میرے رب نے بیعت کی۔“ (دافع ابلاء، ص ۶، مندرجہ روحانی خزائن، ص ۳۲۱، ج ۱۸، مصنفہ مرزا قادیانی)

○ ”اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے غلام احمد تیرا نام پورا ہو جائے گا۔ پیشتر اس کے کہ میرا نام پورا ہو۔“ (انجام آتھم، ص ۵۲، مصنفہ مرزا قادیانی)

○ ”خدا میرے وجود میں داخل ہو گیا اور میرا غضب اور رحم، تلخی اور شیرینی اور حرکت اور سکون سب اس کا ہو گیا۔ اس حالت میں میری زبان پر جاری تھا کہ ہم ایک نیا نظام اور نیا آسمان اور نئی زمین چاہتے ہیں۔ سو میں نے پہلے تو آسمان اور زمین کو اجمالی صورت میں پیدا کیا، جس میں کوئی ترتیب اور تفریق نہ تھی۔ پھر میں نے فشاخ کے مطابق ترتیب اور تفریق کی اور میں دیکھتا ہوں کہ میں اس کی خلق پر قادر ہوں۔ پھر میں نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا وغیرہ۔“ (کتاب البریت، ص ۱۰۴، مصنفہ مرزا قادیانی)

○ ”خدا نے میرا نام متوکل رکھا، خدا میری حمد کرتا ہے اور مجھ پر رحمت بھیجتا ہے۔“ (ضمیمہ تریاق القلوب، ص ۴۳، نشان ۴۸، مصنفہ مرزا قادیانی)

○ ”خدا نے فرمایا جو کچھ مرزا کی زبان سے جاری ہو، وہ میری زبان سے ہے۔“ (حقیقت الوحی، ص ۱۶، مصنفہ مرزا قادیانی)

○ ”خدا نے فرمایا، اے مرزا! میں نے تجھے اپنے نفس کے لیے پیدا کیا۔ زمین اور آسمان تیرے ساتھ ہیں، جیسے میرے ساتھ ہیں۔ تو میرے پاس بمنزلہ توحید اور

تفرید کے ہے۔" (رسالہ انجام آتھم، ص ۵۲، مصنفہ مرزا قادیانی)

○ "خدا نے فرمایا کہ اے مرزا! خدا تیرے ساتھ ہے اور خدا وہیں کھڑا ہوتا ہے جہاں تو کھڑا ہوتا ہے۔" (ضمیمہ انجام آتھم، ص ۱۷، مصنفہ مرزا قادیانی)

○ "خداوند عالم فرش پر میری حمد کرتا ہے۔" (اربعین نمبر ۳، ص ۳۱، مصنفہ مرزا قادیانی)

○ "خدا نے مجھ سے کہا کہ اگر تو نہ ہوتا تو میں آسمان کو پیدا ہی نہ کرتا۔" (دافع البلاء، ص ۴، مصنفہ مرزا قادیانی)

○ "ہم نے تجھے دنیا کی رحمت کے لیے بھیجا ہے۔" (اربعین نمبر ۳، ص ۳۰)

○ "خدا فرماتا ہے کہ یہ اپنی طرف سے نہیں بولتا بلکہ جو کچھ تم سنتے ہو خدا کی وحی ہے۔" (اربعین نمبر ۳، ص ۴۴)

○ "کہ وہ پاک ذات وہی ہے جس نے تجھے رات میں سیر کرایا۔" (حقیقت الوحی، ص ۷۸، مصنفہ مرزا قادیانی)

○ "مرزا تمام انبیاء کا چاند ہے۔" (انجام آتھم، ص ۵۸، مصنفہ مرزا قادیانی)

○ "خدا نے مجھے آدم، صلی اللہ، مثل نوح، مثل یوسف، مثل داؤد اور مثل موسیٰ اور مثل ابراہیم کہا اور احمد کے نام سے بار بار پکارا۔" (ازالہ اوہام، ص ۲۵۳، مصنفہ مرزا قادیانی)

○ "مجھے خدا کی طرف سے مارنے اور زندہ کرنے کی صفت دی گئی یعنی میں اس بات پر قادر ہوں کہ ماروں اور زندہ نہ رکھوں۔" (خطبہ الہامیہ، ص ۲۳، مصنفہ مرزا قادیانی)

○ "بلاشبہ تیرا ہی حکم ہے جب تو کسی شے کا ارادہ کرے، تو اسے کہہ دے ہو چاہے وہ ہو جاتی ہے۔" (البشریٰ جلد دوم، ص ۹۳، مصنفہ مرزا قادیانی)

○ "مجھ سے میرے رب نے بیعت کی۔" (دافع البلاء، ص ۶، مصنفہ مرزا قادیانی)

○ "سچا خدا وہی خدا ہے جس نے قادیان میں اپنا رسول بھیجا۔" (دافع البلاء، مصنفہ مرزا قادیانی)

○ ”خدا نے اس عاجز کا نام نبی بھی رکھا۔“ (ازالہ اوہام، ص ۵۳۳، مصنفہ مرزا قادیانی)

○ ”میرا خدا وہ خدا ہے جس نے اپنے رسول کو یعنی اس عاجز کو ہدایت اور دین حق اور تہذیب و اخلاق کے ساتھ بھیجا۔“ (اربعین نمبر ۲، ص ۳۴، مصنفہ مرزا قادیانی)

○ ”چونکہ اس مبارک زمانے میں خدا کا ایک برگزیدہ نبی اور رسول موجود ہے، اس لیے عذاب بھی اس قسم کے نازل ہو رہے ہیں جو انبیاء کے وقتوں میں ہوتے ہیں۔“ (اخبار بدر، مورخہ ۲۴ نومبر ۱۹۰۴ء)

○ ”یہ دو نام اور دو خطاب خاص آنحضرت کو قرآن میں دیے گئے۔ یعنی سید الانبیاء اور رحمۃ اللعالمین۔ پھر وہ خطاب الہام میں مجھے دیے گئے ہیں۔ (اربعین نمبر ۲، ص ۴)

○ ”اس امت میں وہ شخص میں ہی ہوں جس کو اپنے نبی کریم کے نمونہ پر وحی اللہ پاتے ہوئے تیس برس کی مدت ہو گئی اور ۲۳ برس تک سلسلہ وحی جاری رکھا گیا۔“ (اربعین نمبر ۳، ص ۳۰)

○ ”اے سردار تو خدا کی طرف سے راہ راست پر خدا کا رسل ہے جو غالب اور رحم کرنے والا ہے۔“ (حقیقت الوحی، ص ۱۰۷، مصنفہ مرزا قادیانی)

○ ”میں اس خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ جس کے ہاتھ میں میری جان ہے کہ اس نے مجھے بھیجا ہے اور اس نے میرا نام نبی رکھا ہے اور اس نے مجھے مسیح موعود کے نام سے پکارا ہے اور اس نے میری تصدیق کے لیے بڑے بڑے نشانات ظاہر کیے جو تین لاکھ تک پہنچے ہیں۔“ (تمتہ حقیقت الوحی، مطبوعہ میگزین قادیان، ص ۶۸)

○ ”اس زمانے میں خدا نے چاہا کہ جس قدر مقدس نبی گزر چکے ہیں، ایک ہی شخص کے وجود میں ان کے نمونے ظاہر کیے سو وہ میں ہوں۔“ (براہین احمدیہ، حصہ پنجم، ص ۹۰، مصنفہ مرزا قادیانی)

○ ”مجھے اپنی وحی پر توریت و انجیل و قرآن کی طرح یقین ہے۔“ (اربعین نمبر ۴، ص ۲۵)

○ ”خدا کی قسم میں اپنے الہامات پر قرآن اور دیگر کتب سماوی کی طرح یقین رکھتا ہوں۔“ (حقیقت الوحی، ص ۲۱۱، مصنفہ مرزا قادیانی)

اللہ کچھری میں:

”اور پھر ایک بار دیکھا کہ کچھری میں گیا ہوں تو اللہ تعالیٰ ایک حاکم کی صورت پر عدالت کی کرسی پر بیٹھا ہے اور ایک سررشتہ دار کے ہاتھ میں ایک مثل ہے جو وہ پیش کر رہا ہے۔ حاکم نے مثل دیکھ کر کہا کہ مرزا حاضر ہے۔ تو میں نے غور سے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ کے پاس ایک خالی کرسی پڑی ہے۔ مجھے اس پر بیٹھنے کا اشارہ کیا اور پھر میں بیدار ہو گیا۔“ (تذکرہ، ص ۱۲۹)

مرزا قادیانی کا ہاتھ اللہ کا ہاتھ:

”اور فرمایا کہ جو شخص تیرے ہاتھ میں ہاتھ دے گا، اس نے تیرے ہاتھ میں نہیں بلکہ خدا تعالیٰ کے ہاتھ میں ہاتھ دیا۔“ (تذکرہ، ص ۱۶۸)

اللہ کے ہاتھ مرزا کے گلے میں

میں نے ایک دفعہ کشف میں اللہ تعالیٰ کو تمثیل کے طور پر دیکھا۔ میرے گلے میں ہاتھ ڈال کر فرمایا، ”جے توں میرا ہو رہیں سب جگ تیرا ہو۔“ (تذکرہ، ص ۴۷۱)

اللہ کا انداز گفتگو:

”حضور نے فرمایا مجھے خدا اس طرح مخاطب کرتا ہے اور مجھ سے اس طرح باتیں کرتا ہے کہ اگر میں ان میں سے کچھ تھوڑا سا بھی ظاہر کر دوں تو یہ جتنے معتقد نظر آتے ہیں سب پھر جاویں۔“ (سیرت الہدی، ص ۷۲، حصہ اول، مصنفہ مرزا بشیر الدین ابن مرزا قادیانی)

خدا کی انگریزی شان:

’یک دفعہ کی حالت یاد آئی ہے کہ انگریزی میں یہ الہام ہوا ”آئی لو یو“۔ یعنی

میں تم سے محبت کرتا ہوں۔ پھر یہ الہام ہوا ”آئی ایم ودیو“ یعنی میں تمہارے ساتھ ہوں۔ پھر الہام ہوا ”آئی شل ویلپ یو“ یعنی میں تمہاری مدد کروں گا۔ (انگریزی محاورہ کی رو سے اگر آئی کے ساتھ شل کی جگہ دل ہوتا تو الہام اور بھی قوی ہو جاتا۔ للمولف) پھر الہام ہوا ”آئی کین وہاٹ آئی ول ڈو“۔ یعنی میں کر سکتا ہوں جو چاہوں گا۔ پھر اس کے بعد بہت ہی زور سے جس سے بدن کانپ گیا یہ الہام ہوا ”دی کین وہاٹ دی ول ڈو“ یعنی ہم کر سکتے ہیں جو چاہیں گے اور اس وقت ایک ایسا لہجہ اور تلفظ معلوم ہوا کہ گویا ایک انگریز ہے جو سر پر کھڑا ہوا بول رہا ہے۔“ (براہین احمدیہ، ص ۴۸۰، مصنف مرزا قادیانی)

خدا کے دستخط

۱۰ جنوری ۱۹۰۶ء ایک رویا میں دیکھا کہ بہت سے ہندو آئے ہیں اور ایک کانگڈ پیش کیا کہ اس پر دستخط کر دو۔ میں نے کہا، میں نہیں کرتا۔ انہوں نے کہا پبلک نے کر دیے ہیں۔ میں نے کہا میں پبلک نہیں یا پبلک سے باہر ہوں۔ ایک اور بات بھی کہنے کو تھا کہ کیا خدا نے اس پر دستخط کر دیے ہیں مگر یہ بات نہیں کی تھی کہ بیداری ہو گئی۔“ (ارشاد مرزا قادیانی، مندرجہ مکاشفات، ص ۴۸، مؤلفہ بابو منظور الہی قادیانی لاہوری)

اللہ کی روشنائی کے دھبے

ایک میرے مخلص عبداللہ نام پڑوسی غوث گڑھ علاقہ ریاست پٹیالہ کے دیکھتے ہوئے اور ان کی نظر کے سامنے یہ نشان الہی ظاہر ہوا کہ اول مجھ کو کشفی طور پر دکھلایا گیا کہ میں نے بہت سے احکام قضا و قدر کے اہل دنیا کی نیکی بدنی کے متعلق اور نیز اپنے لیے اور اپنے دوستوں کے لیے لکھے ہیں اور پھر تمثیل کے طور پر میں نے خدائے تعالیٰ کو دیکھا اور وہ کانگڈ جناب باری کے آگے رکھ دیا کہ وہ اس پر دستخط کر دیں۔ مطلب یہ تھا کہ یہ سب باتیں جن کے ہونے کے لیے میں نے ارادہ کیا ہے ہو جائیں۔ سو خدائے تعالیٰ نے سرخی کی سیاہی سے دستخط کر دیے اور قلم کی نوک پر جو سرخی زیادہ تھی اس کو جھاڑا اور معاً جھاڑنے کے ساتھ ہی اسی سرخی کے قطرے

میرے کپڑوں اور عبداللہ کے کپڑوں پر پڑے اور چونکہ کشفی حالت میں انسان بیداری سے حصہ رکھتا ہے اس لیے مجھے جبکہ ان قطروں سے جو خدائے تعالیٰ کے ہاتھ سے گرے اطلاع ہوئی ساتھ ہی میں نے بہ چشم خود ان قطروں کو بھی دیکھا اور میں رقت دل کے ساتھ اس قصے کو میاں عبداللہ کے پاس بیان کر رہا تھا کہ اتنے میں اس نے بھی وہ تر بہ تر قطرے کپڑوں پر پڑے ہوئے دیکھ لیے اور کوئی چیز ایسی ہمارے پاس موجود نہ تھی جس سے اس سرخی کے گرنے کا کوئی احتمال ہوتا اور وہ وہی سرخی تھی جو خدا تعالیٰ نے اپنے قلم سے جھاڑی تھی۔ اب تک بعض کپڑے میاں عبداللہ کے پاس موجود ہیں جن پر وہ بہت سی سرخی پڑی تھی۔" (تریاق القلوب، ص ۳۳، حقیقت الوحی، ص ۲۵۵، باختلاف الفاظ، مصنفہ مرزا قادیانی)

اے اللہ! یہ مرزا قادیانی!----- یہ عمد حاضر کافرعون----- یہ زمانہ رواں کا نمود----- یہ مرتد عصر----- یہ زندیق زماں----- یہ منہ پھناگستاخ----- اے رب ذوالجلال! یہ تیری ذات کا گستاخ----- یہ تیری صفات کا گستاخ----- یہ تیرے نبیؐ کا گستاخ----- یہ تیرے سارے نبیوں کا گستاخ----- یہ تیرے قرآن کا گستاخ----- یہ تیرے نبیؐ کی احادیث کا گستاخ----- یہ تیرے نبیؐ کے صحابہؓ کا گستاخ----- یہ تیرے نبیؐ کے شہر کا گستاخ----- یہ تیرے پیارے نبیؐ کی پیاری امت کا گستاخ----- یہ تیرے گھر، بیت اللہ، کا گستاخ----- یہ تیرے فرشتوں کا گستاخ-----

خداوند قدوس! اس مردود کے فتنے نے تیرے دین کی روح کو گھائل کر دیا ہے۔۔۔۔ امت محمدیہؐ کے جسم کو مجروح کر دیا ہے۔۔۔۔ یہ اسلامی عقائد کے رفیع الشان قصر کو تاخت و تاراج کر رہے ہیں۔۔۔۔ مسلمانوں کے ایمانوں پر ڈاکہ زنی کر کے انہیں مرتد بنا رہے ہیں۔۔۔۔

اے دعاؤں کے قبول کرنے والے رب! اس فتنہ کی اتنی رسی دراز کیوں؟۔۔۔۔ اس فتنہ کو اتنی ڈھیل کیوں؟۔۔۔۔ گستاخوں کو اتنی لمبی مہلت کیوں؟۔۔۔۔ مولا! اب اس فتنے کی شہ رگ ہٹ دے۔۔۔۔ جھوٹی نبوت کے ڈرامے کے کرداروں کو ان کے ہولناک انجام پہ پہنچا دے۔۔۔۔ اب ان کی بساط پلٹ دے۔۔۔۔ اب ان کے قدموں سے زمین سمیٹ لے۔۔۔۔ زمین کا سینہ ان مردودوں کا بوجھ اٹھا

اٹھا کے تھک چکا ہے۔۔۔۔۔ اب ان کے وجودوں کو زمین کے پیٹ کے حوالے کر
 دے۔۔۔۔۔ جو انتقام کی آگ میں تڑپ تڑپ کر ان کا انتظار کر رہا ہے۔

مرزائیوں کا نام ذرا دیر میں مٹا
 حق کے جلال سے یہی ایک ڈھیل ہو گئی






کیم

رسول اللہ ﷺ

کے

انسی ہیں؟



ایک نام
 بہت ہی عظیم نام
 بہت ہی محترم نام
 بہت ہی مبارک نام
 جسے بولنے سے پہلے لب ایک دوسرے کا بوسہ لیتے ہیں۔
 جسے ادا کرتے ہی دھن سے درود شریف کے پھول برستے ہیں۔
 جسے دیکھتے ہی آنکھوں میں ستارے چمکنے لگتے ہیں۔
 جسے پڑھتے ہی وادی دل میں سکون کی شبنم کا نزول شروع ہو جاتا ہے۔
 جسے سنتے ہی جسم و روح میں کیف و نشاط اتر جاتا ہے۔
 جس کا ورد کرتے ہی رحمتوں کے قافلے سوئے دل اترنے لگتے ہیں۔
 وہ نام نامی اسم گرامی ”محمد“ ﷺ ہے۔

مسلمانوں نے اس نام سے پروانہ وار محبت کی ہے۔ یہ نام ان کی آنکھوں کا نور اور دلوں کا سرور ہے۔ یہ نام ان کی حیات کی علامت ہے۔ یہ نام ان کی محبتوں کا محور ہے۔ یہ نام ان کی عقیدتوں کا مرکز ہے۔ یہ نام ان کے ایمان کی حلاوت ہے۔ یہ نام ان کی روح کی ٹھنڈک ہے اور یہ نام ان کی زندگی کا اثاثہ ہے۔ تاریخ کے لمحات گواہ ہیں کہ جب بھی اس نام پر آواز دی گئی۔۔۔۔۔ جب بھی اس نام پر پکار پڑی تو مسلمانوں نے اس نام کی حرمت کے لیے اپنی جانیں نچھاور کر دیں۔ اپنے بچے کٹوا دیے۔ اپنا مال و اسباب لٹا دیا۔ اپنے گھروں کو خیر یاد کہہ دیا۔ اپنے وطن کو داغ مفارقت دے دیا، عزیز و اقارب کو چھوڑ دیا لیکن اس نام کی حرمت پر آنچ نہ آنے دی۔

محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے
 اس میں ہو اگر خالی تو سب کچھ نامکمل ہے
 محمد کی محبت آن ملت، شان ملت ہے
 محمد کی محبت روح ملت، جان ملت ہے

محمد کی محبت خون کے رشتوں سے بالا ہے
یہ رشتہ دنیاوی قانون کے رشتوں سے بالا ہے
محمد ہے متاع عالم ایجاد سے پیارا
پدر، مادر، برادر، مل، جان، اولاد سے پیارا

غلام ہندوستان میں ظالم فرنگی نے مسلمانوں سے عشق رسولؐ کی دولت چھیننے کے لیے ایک انتہائی خطرناک اور مملکت سازش تیار کی، جس کا تصور کرتے ہیں تو جسم پر کپکپاہٹ طاری ہو جاتی ہے۔ فرنگی کو معلوم تھا کہ جب تک ہم مسلمانوں کے دل سے محبت رسولؐ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہیں نکالیں گے ہم انہیں غلام نہیں بنا سکیں گے کیونکہ جو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا غلام ہوتا ہے وہ کائنات میں کسی اور کی غلامی کبھی قبول نہیں کرتا۔

کفر کے بڑے دماغ مل بیٹھے اور ایک لمبی سوچ کے بعد یہ ہولناک فیصلہ ہوا کہ ایک جعلی محمد بنایا جائے (نعوذ باللہ) اور وہ شخص دنیا سے کہے کہ میں محمد ہوں۔ وہ کہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دو ہتھیں ہوں۔ پہلی دفعہ مکہ مکرمہ میں اور دوسری دفعہ قادیان میں۔ وہ کہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو جب فسق و فجور اور کفر و معصیت سے بھرا پایا تو اللہ کو دنیا میں نبی بھیجنے کی ضرورت محسوس ہوئی۔ لیکن اللہ تعالیٰ تو اپنی کتاب میں ختم نبوت کا اعلان کر چکا تھا۔ اس صورت میں اللہ تعالیٰ اگر نئے نبی کو بھیجتا تو ختم نبوت کے عقیدہ پر زد پڑتی۔ لہذا اللہ پاک نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں دوبارہ اشاعت اسلام کے لیے بھیج دیا اور وہ کہے کہ میں ہی وہ محمد ہوں جو تیرہ سو برس قبل مکہ مکرمہ میں تشریف لائے تھے۔

قادیان کے ایک ذلیل و رذیل، بد فطرت و بد فہمت، دین فروش و ایمان فروش اور غدار دین مرزا قادیانی ملعون کو ”محمد“ (نعوذ باللہ) بنا دیا گیا اس نے خود کو محمدؐ کہہ کر متعارف کرانا شروع کر دیا۔ فرنگی نے سوچا تھا کہ یہ جعلی محمد (نعوذ باللہ) مسلمانوں کی عقیدتوں اور محبتوں کو اپنی جانب کھینچ لے گا اور مسلمان مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ کے محمدؐ کو بھول کر قادیان کے محمدؐ کے گرد اکٹھے ہو جائیں گے (نعوذ باللہ) اور اس طرح دین محمدیؐ ختم ہو جائے گا۔ (نعوذ باللہ)

مرزا قادیانی نے روایتوں کے فلسفہ کے تحت خود کو "محمدؐ" ظاہر کرنا شروع کر دیا۔

چند حوالے پیش خدمت ہیں:

○ "پس چونکہ میں اس کا رسول یعنی فرستادہ ہوں مگر بغیر کسی نئی شریعت اور نئے دعوے اور نئے نام کے بلکہ اس نبی کریم خاتم الانبیاء کا نام پا کر اور اسی میں ہو کر اور اسی کا مظہر بن کر آیا ہوں۔"

("نزول المسیح" ص ۲، "روحانی خزائن" ص ۳۸۱-۳۸۰، ج ۱۸، مصنفہ مرزا غلام

قادیانی)

○ یہ مسلمان کیا منہ لے کر دوسرے مذاہب کے بالمقابل اپنا دین پیش کر سکتے ہیں تا وقتیکہ وہ مسیح موعود کی صداقت پر ایمان نہ لائیں جو فی الحقیقت وہی ختم المرسلین تھا کہ خدائی وعدے کے مطابق دوبارہ آخرین میں مبعوث ہوا۔

وہ وہی فخر اولین و آخرین ہے جو آج سے تیرہ سو برس پہلے رحمتہ للعالمین بن کر آیا تھا اور اب اپنی تکمیل تبلیغ کے ذریعہ ثابت کر گیا کہ واقعی اس کی دعوت جمیع ممالک و ملل عالم کے لیے تھی۔ (اخبار "الفضل" قادیان، ج ۳، نمبر ۳۱، مورخہ ۲۶ ستمبر ۱۹۱۵ء)

○ تم خدا کے سامنے کون سامنے لے کر جاؤ گے؟ (مولف)

○ "تو اس صورت میں کیا اس بات میں کوئی شک رہ جاتا ہے کہ قادیان میں اللہ تعالیٰ نے پھر محمدؐ کو اتارا تاکہ اپنے وعدہ کو پورا کرے۔" (کلمتہ الفصل "مصنفہ مرزا بشیر احمد قادیانی، مندرجہ رسالہ "ریویو آف ریلیجنز" ص ۱۰۵، نمبر ۳، جلد ۱۳)

○ اور یہ اس لیے ہے کہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ تھا کہ وہ ایک دفعہ اور خاتم النبیین کو دنیا میں مبعوث کرے گا جیسا کہ آئیہ و آخرین منہم سے ظاہر ہے کہ پس مسیح موعود خود محمد رسول اللہ ہے جو اشاعت اسلام کے لیے دوبارہ دنیا میں تشریف لائے۔

("کلمتہ الفصل" مصنفہ مرزا بشیر احمد قادیانی، مندرجہ "رسالہ ریویو آف ریلیجنز"

ص ۱۵۸، نمبر ۳، جلد ۱۳)

محمد پھر اتر آئے ہیں ہم میں

اور آگے سے ہیں بڑھ کر اپنی شان میں

محمد دیکھنے ہوں جس نے اکل
غلام احمد کو دیکھے قادیان میں

از قاضی محمد ظہور الدین اکل قادیانی، منقول از اخبار "پیغام صلح" مورخہ ۱۴ مارچ،
۱۹۱۶ء، اخبار "بدر" قادیان، نمبر ۳۳، ج ۲، ۲۵ اکتوبر ۱۹۰۶ء، ص ۴

○ اور ہمارے نزدیک تو کوئی دوسرا آیا ہی نہیں۔ نہ نیانی نہ پرانا بلکہ خود محمد رسول
اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی چادر دوسرے کو پہنائی گئی ہے اور وہ خود ہی آئے ہیں۔

(مرزا غلام قادیانی، مندرجہ اخبار "الحکم" قادیان، ۳۰ نومبر ۱۹۰۱ء منقول از جماعت

مباہیین کے عقائد صحیحہ رسالہ منجانب قادیانی جماعت، قادیان، ص ۱۷)

○ "اب معاملہ صاف ہے۔ اگر نبی کریم کا انکار کفر ہے تو مسیح موعود کا انکار بھی کفر

ہونا چاہیے۔ کیونکہ مسیح موعود نبی کریم سے کوئی الگ چیز نہیں ہے بلکہ وہی ہے۔ اگر مسیح

موعود کا منکر کافر نہیں تو نعوذ باللہ نبی کریم کا منکر بھی کافر نہیں۔ کیونکہ یہ کس طرح ممکن ہے

کہ پہلی بعثت میں تو آپ کا انکار کفر ہو مگر دوسری بعثت میں جس کا بقول حضرت مسیح موعود

آپ کی روحانیت اتوی اور اکل اور اشد ہے۔ آپ کا انکار کفر نہ ہو" ("کلمۃ الفصل"

مصنفہ مرزا بشیر احمد قادیانی، مندرجہ رسالہ "ریویو آف ریلیجنز" ص ۱۳۶-۱۳۷، نمبر ۳،

جلد ۱۴)

○ پس ان معنوں میں مسیح موعود (جو آنحضرت کی بعثت ثانی کے ظہور کا ذریعہ ہے کہ

احمد اور نبی اللہ ہونے سے انکار کرنا گویا آنحضرت کی بعثت ثانی اور آپ کے احمد اور نبی

اللہ ہونے سے انکار کرنا ہے جو منکر کو دائرہ اسلام سے خارج اور پکا کافر بنا دینے والا ہے۔"

(اخبار "الفضل" قادیان، ج ۳، نمبر ۳، مورخہ ۲۹ جون ۱۹۱۵ء)

○ کافر پوری ملت اسلامیہ کو کافر کہہ رہا ہے، تعجب ہے۔ (مولف)

○ "وہ جس نے مسیح موعود (یعنی مرزا غلام احمد قادیانی) اور نبی کریم میں تفریق کی اس

نے بھی مسیح موعود کی تعلیم کے خلاف قدم مارا کیونکہ مسیح موعود صاف فرماتا ہے کہ من

فرق بینی و بین المصطفیٰ فماعر فنی و مارای (دیکھو خطبہ الہامیہ،

ص ۱۷۱، "روحانی خزائن" ص ۲۵۹، ج ۱۶) اور وہ جس نے مسیح موعود کی بعثت کو نبی کریم کی

بعث ثانی نہ جانا اس نے قرآن کو پس پشت ڈال دیا کیونکہ قرآن پکار پکار کر کہہ رہا ہے کہ محمد رسول اللہ ایک دفعہ پھر دنیا میں آئے گا۔“

(”کلمۃ الفصل“ مصنفہ مرزا بشیر احمد قادیانی، مندرجہ رسالہ ”ریویو آف ریلیجز“

قادیان، ص ۱۰۵، نمبر ۳، جلد ۱۳)

○ کون سے قرآن میں لکھا ہے بتاؤ تو سہی؟ (مولف)

○ ”حضرت مسیح موعود نام، کام اور مقام کے اعتبار سے گویا آنحضرت صلعم کا ہی وجود ہیں اور آپ میں اور آنحضرت صلعم میں ذرا بھر بھی فرق نہیں سوائے اس کے کہ مسیح موعود شاگرد اور آنحضرت صلعم استاد ہیں لیکن یہ فرق نام، کام اور مقام کے اعتبار سے نہیں بلکہ ذریعہ یا حصول نبوت کے اعتبار سے ہے۔“ (کلمۃ الفصل، مصنفہ مرزا بشیر احمد

قادیانی، مندرجہ رسالہ ”ریویو آف ریلیجز“ قادیان، ص ۱۱۵، نمبر ۳، جلد ۱۳)

○ کہاں منصب نبوت اور کہاں سیالکوٹ کی پجہری کانفی گاماں۔ (مولف)

○ حضرت مسیح موعود کی جماعت درحقیقت آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ہی صحابہ میں ایک جماعت ہے اور جیسا کہ آنحضرت صلعم کا فیض صحابہ پر جاری ہوا، ایسا ہی بغیر فرق ایک ذرہ کے مسیح موعود کی جماعت پر بھی آنحضرت صلعم کا فیض ہوا۔ پس یہ امر روز روشن کی طرح ظاہر ہو رہا ہے کہ حضرت مسیح موعود کی جماعت کا عین صحابہ کی ایک جماعت ہونا اور آپ کی جماعت پر عین بعین وہی آنحضرت صلعم کا فیض جاری ہونا جو صحابہ پر ہوا تھا، اس امر کی پختہ دلیل ہے کہ مسیح موعود درحقیقت محمدؐ اور عین محمدؐ ہیں اور آپ میں اور آنحضرت صلعم میں باعتبار نام، کام اور مقام کے کوئی دوئی یا مغائرت نہیں۔“ (اخبار ”الفضل“ قادیان، ج ۳، نمبر ۷، مورخہ یکم جنوری ۱۹۱۶ء)

○ کبھی گامے کانے کی تصویر تو دیکھو۔ (مولف)

○ ”غرض آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دو بعثت مقرر تھے۔ ایک بعثت تکمیل ہدایت کے لیے، دوسرا بعثت تکمیل اشاعت ہدایت کے لیے۔“

(اخبار ”الفضل“ قادیان، جلد ۱۸، نمبر ۸۶-۸۷، ص ۱۰، مورخہ ۲۴ جنوری ۱۹۳۱ء)

○ ”حضرت مسیح موعود نے خطبہ الہامیہ میں فرمایا ہے کہ من فرق بیننا و بیننا

المصطفیٰ ما عرفنی ومارائی یعنی جس نے میرے اور حضرت محمد مصطفیٰ کے درمیان فرق کیا اور دونوں کو الگ الگ سمجھا اس نے نہ مجھے شناخت کیا اور پہچانا اور نہ ہی دیکھا اور سمجھا پس حضور کے اس ارشاد کے مطابق حضور کا دیکھنا ان ہی معنوں میں ہے کہ حضور (مرزا صاحب) کو محمد مصطفیٰ ہی یقین کیا جائے۔ (اخبار "الفضل" قادیان، جلد ۲، نمبر ۱۵۶، ص ۷، مورخہ ۱۷ جون ۱۹۱۵)

○ ہاں البتہ تیرے اور شیطان میں کوئی فرق نہیں۔ (مؤلف)

صدی چودھویں کا ہوا سر مبارک کہ جس پر وہ بدرالدجی بن کے آیا محمد پئے چارہ سازی امت ہے اب احمد مجتبیٰ بن کے آیا حقیقت کھلی بحث ثانی کی ہم پر کہ جب مصطفیٰ میرزا بن کے آیا (اخبار "الفضل" قادیان، ج ۱۳، نمبر ۱۱۳، مورخہ ۲۸ مئی ۱۹۲۸)

○ دنیا کاسب سے بڑا جھوٹ۔ (مؤلف)

○ "تم پر اللہ کا بڑا فضل ہے۔ کیونکہ اگر تم اپنی ساری جائیدادیں، سارے اموال اور جانیں قربان کر دیتے تو بھی صحابہ کرام میں شامل نہ ہو سکتے۔ یہ مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ غوث، قطب، ولی جتنے بزرگ امت محمدیہ میں گزرے ہیں، ان کا ایمان صحابی کے ایمان کے برابر نہیں ہو سکتا.... اللہ نے تمہیں محمد رسول اللہ کا چہرہ مبارک دکھا کر اس کی صحبت سے مستفید کر کے صحابہ کرام کے گروہ میں شامل کر دیا۔" (تقریر سرور شاہ قادیانی، مندرجہ اخبار "الفضل" قادیان، مورخہ ۲۸ دسمبر ۱۹۱۴)

○ صحابہ کے گروہ میں نہیں بلکہ مرتدوں کے گروہ میں شامل ہو گئے ہو۔ (مؤلف)

○ "پس مسیح موعود (مرزا قادیانی) خود محمد رسول اللہ ہے جو اشاعت اسلام کے لیے دوبارہ دنیا میں تشریف لائے۔ اس لیے ہم کو کسی نئے کلمہ کی ضرورت نہیں۔ ہاں اگر محمد رسول اللہ کی جگہ کوئی اور آتا تو ضرورت پیش آتی" ("کلمتہ الفصل" مصنفہ مرزا بشیر احمد

قادیانی، مندرجہ رسالہ، ریویو آف ریلیجز "قادیان" ص ۱۵۸، نمبر ۴، جلد ۱۳)

○ "سیدنا حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اپنی کتب بالخصوص "شادات القرآن" "تحفہ گوٹرویہ" اور "خطبہ الہامیہ" میں بیان فرمایا ہے کہ سیدنا حضرت محمد رسول اللہ صلی

اللہ علیہ وسلم کے دو ظہور اللہ تعالیٰ کے ہاں مقرر تھے۔ ظہور اول اسم محمد اور ظہور دوم اسم احمد کے ماتحت۔ ظہور اول جو اسم محمد کے ماتحت تھا، وہ آج سے قریباً چودہ سو سال قبل مکہ معظمہ میں ہوا..... ظہور ثانی جو اسم احمد کے ماتحت تیرہویں صدی ہجری میں حضرت احمد قادیانی کی صورت میں ہوا۔ (اخبار "الفضل" جلد ۲۸، نمبر ۱۱۵، ۲۱ مئی ۱۹۳۰ء)

○ "آنحضرت کے بعثت اول میں آپ کے منکروں کو کافر اور دائرہ اسلام سے خارج قرار دینا لیکن ان کی بعثت ثانی میں آپ کے منکروں کو داخل اسلام سمجھنا یہ آنحضرت کی ہتک اور آیات اللہ سے استہزاء ہے۔" ("الفضل" قادیاں، جلد ۳، نمبر ۱۰، مورخہ ۱۵ جولائی ۱۹۱۵ء)

○ "چنانچہ وہ مکالمات ایسے جو براہین احمدیہ میں شائع ہو چکے ہیں، ان میں سے ایک یہ وحی اللہ ہے ہوالذی ارسل رسولہ بالہدی و دین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ دیکھو ص ۴۹۸ براہین احمدیہ اس میں صاف طور پر اس عاجز کو رسول کر کے پکارا گیا پھر.... اسی کتاب میں اس مکالمہ کے قریب ہی یہ وحی اللہ ہے محمد رسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار ورحماء بینہم اس وحی الہی میں میرا نام محمد رکھا گیا اور رسول اللہ بھی.... اسی طرح براہین احمدیہ میں اور کئی جگہ رسول کے لفظ سے اس عاجز کو یاد کیا گیا ہے۔"

("ایک غلطی کا ازالہ" ص ۲، "روحانی خزائن" ص ۲۰۷، ج ۱۸، اشتہار مرزا قادیانی، مندرجہ "تبلیغ رسالت" جلد دہم، ص ۱۳، "مجموعہ اشتہارات" ص ۳۳۱، ۳۳۲، ج ۳)

○ جب ایمان ختم ہوتا ہے تو شرم و حیا بھی ختم ہو جاتی ہے۔ (مولف)

☆ مسلمانو! اس ملعون کائنات کو آج بھی "محمد رسول اللہ" کہا جا رہا ہے۔۔۔۔ لکھا جا رہا ہے۔۔۔۔ شائع کیا جا رہا ہے۔۔۔۔ اور اس ظلم عظیم کی تشریح کی جا رہی ہے۔

آج وقت پوچھتا ہے؟

☆ کیا ہماں کے بے حس حکمران رسول اللہ کے امتی ہیں؟

☆ کیا اس بھیانک سازش پر خاموش رہنے والے علماء اور خطیب رسول اللہ کے

امتی ہیں؟

☆ کیا اس لرزہ خیز شیطانی حملے کو دیکھ کر لبوں پر مہر سکوت لگانے والے پیر اور مشائخ رسول اللہ کے امتی ہیں؟


☆ کیا اس داستان الم پر قلم نہ اٹھانے والے ادیب اور صحافی رسول اللہ کے امتی ہیں؟

☆ کیا اس دردناک سانحہ پر چپ رہنے والے ایم۔ پی ایز، ایم این ایز، اور سینئرز وغیرہم رسول اللہ کے امتی ہیں؟

☆ کیا قادیانی مجرموں کے ساتھ معاشرتی اور معاشی تعلقات رکھنے والے عوام الناس رسول اللہ کے امتی ہیں؟


آئیے اپنے دل سے پوچھتے ہیں۔۔۔۔ اپنے دماغ سے پوچھتے ہیں۔۔۔۔ گریبان میں منہ ڈالتے ہیں۔۔۔۔ اور اپنے جسم میں ایمان تلاش کرتے ہیں۔۔۔۔ کہ ہمارے جسموں میں ایمان ہے بھی کہ نہیں؟

کسی نمگسار کی محنتوں کا یہ خوب میں نے صلہ دیا
 کہ جو میرے غم میں گھل گیا اسے میں نے دل سے بھلا دیا
 جو جمال روئے حیات تھا جو دلیل راہ نجات تھا
 اسی راہبر کے نقوش پا کو مسافروں نے مٹا دیا
 تیرے حسن خلق کی اک رمق، مری زندگی میں نہ مل سکی
 میں اسی میں خوش ہوں کہ شہر کے در و بام کو تو سجا دیا
 ترے ثور و بدر کے باب کے میں ورق الٹ کے گزر گیا
 مجھے صرف تیری حکایتوں کی روایتوں نے مزا دیا
 کبھی اے عنایت کم نظر ترے دل میں یہ بھی کک ہوئی؟
 جو تبسم رخ زیت تھا اسے تیرے غم نے رلا دیا



سزاگامی

بجکیوں بنا گیا؟



انگریز ہندوستان پر مکمل قابض ہو چکا تھا۔ اس نے مسلمانوں کی فوجی اور سیاسی قوت کو جلا کر راکھ بنا دیا تھا۔ لیکن اس کے دماغ میں ابھی تک خوف کی آندھیاں چل رہی تھیں۔ اس کا دل جمادی لاکار کے زلزلوں سے کانپ رہا تھا۔ اسے راکھ سے چنگاریاں، چنگاریوں سے آگ اور آگ سے اٹھتے ہوئے منہ زور شعلے اپنی جانب لپکتے نظر آ رہے تھے۔

وہ مسلمانوں کے جذبہ جماد سے خائف تھا۔ وہ ابھی تک صلاح الدین ایوبی کی یلغار کو نہیں بھولا تھا۔ اسے ابھی تک نور الدین زنگی کی تلوار کی کاٹ یاد تھی۔ وہ ابھی تک طارق بن زیاد کے کشتیاں جلانے کے منظر سے خوفزدہ تھا۔ اس کے کانوں میں ابھی تک محمد بن قاسم کے گھوڑوں کی ٹاپوں کی صدائیں گونج رہی تھیں۔ وہ ابھی تک سلطان محمود غزنوی کی حکمبندوں سے کچکپا رہا تھا۔ وہ ابھی تک سلطان شہاب الدین غوری کی جرات و شجاعت سے خائف تھا اور وہ ابھی تک احمد شاہ ابدالی کی جنگی حکمتوں کے سامنے سرنگوں تھا۔

اس نے اسلامی تاریخ سے یہ اخذ کر لیا تھا کہ مسلمانوں کی عزت جماد سے ہے اور مسلمانوں کی ذلت عدم جماد سے ہے۔ پھر ان کے شہ دماغوں نے فیصلہ دیا کہ مسلمانوں سے جذبہ جماد چھین لیا جائے۔ اس کے لیے انہوں نے ایک ”کرائے کے نبی“ (مرزا قادیانی) کی خدمات مستعار لیں اور اس نے اعلان کیا کہ میں بطور نبی یہ کہتا ہوں کہ اب اسلامی شریعت میں جماد ختم ہو چکا ہے۔ اب جو شخص جماد کرے گا وہ اللہ اور اس کے رسول کا باغی ہو گا۔ فرنگی منصوبہ سازوں نے مرزا قادیانی سے کہا کہ تجھے ”نبی“ اس لیے بنایا گیا ہے کہ

تو----- ۱۱۱

- ان کے پھرے ہوئے جذبوں کو زنجیر پھنداے۔
- ان کے آتش فشاں و ولولوں کو مقید کر لے۔
- ان کی بے خوف آنکھوں میں موت کا خوف اتار دے۔
- قوم رسول ہاشمی کے سینوں سے جمادی روح نوج لے۔
- ان کے دماغوں سے شوق شہادت کی تمنا ختم کر دے۔

○ ان کے ہاتھوں سے شمشیر جہاد چھین لے۔

○ ان کے خون میں دوڑنے والے جہادی شراروں کو منجمد کر دے۔

○ ان کی اسلامی غیرت کو موت کے گھاٹ اتار دے۔

○ ان کے قلوب سے عشق رسول نکال دے۔

○ انہیں ان کے نبی سے بے تعلق کر کے اپنی جانب کھینچ لے۔

جہاد کے بارے میں بطور نمونہ قادیانیوں کے چند حوالے پیش خدمت ہیں۔ انہیں

پڑھئے اور سوچئے کہ عالم اسلام کے خلاف کس قدر بھیانک سازش ہوئی ہے۔

”اب چھوڑ دو جہاد کا اے دوستو خیال دین کے لیے حرام ہے اب جنگ اور قتال

اب آگیا مسیح جو دین کا امام ہے دین کے لیے تمام جنگوں کا اب اختتام ہے

اب آسمان سے نور خدا کا نزول ہے اب جنگ اور جہاد کا فتویٰ فضول ہے

دشمن ہے، خدا کا جو کرتا ہے اب جہاد منکر نبی کا ہے جو یہ رکھتا ہے اعتقاد“

(ضمیمہ ”تحفہ گولڈویہ“ ص ۳۹، مصنف مرزا قادیانی)

○ ”آج سے انسانی جہاد جو تلوار سے کیا جاتا تھا، خدا کے حکم کے ساتھ بند کیا گیا۔ اب

اس کے بعد جو شخص کافر پر تلوار اٹھاتا ہے اور اپنا نام غازی رکھتا ہے، وہ اس رسول کریم

صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کرتا ہے۔“ (”خطبہ الہامیہ“ مترجم، ص ۲۸-۲۹، مصنف مرزا

قادیانی)

○ ”گورنمنٹ انگلیشہ خدائی نعمتوں سے ایک نعمت ہے۔ یہ ایک عظیم الشان رحمت

ہے۔ یہ سلطنت مسلمانوں کے لیے برکت کا حکم رکھتی ہے۔ خداوند رحیم نے اس سلطنت

کو مسلمانوں کے لیے باران رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ ایسی سلطنت سے لڑائی اور جہاد کرنا قطعی

حرام ہے۔“ (”شہادت القرآن“ ضمیمہ، ص ۱۱-۱۲، مصنف مرزا قادیانی)

○ ”بعض احمق نادان سوال کرتے ہیں کہ اس گورنمنٹ سے جہاد کرنا درست ہے یا

نہیں، سو یاد رہے کہ یہ سوال ان کا نہایت حماقت کا ہے، کیونکہ جس کے احسانات کا شکر کرنا

یعنی فرض ہے اور واجب ہے، اس سے جہاد کیسا؟ میں سچ سچ کہتا ہوں کہ محسن کی بدخواہی

کرنا ایک بدکار اور حرامی آدمی کا کام ہے۔“ (مرزا قادیانی کی کتاب ”شہادت القرآن“ کا

ضمیمہ بعنوان ”گورنمنٹ کی توجہ کے لائق“ ص ۳۰، منقول از اخبار ”الفضل“ قادیان، جلد ۲، ص ۲۰۹، مورخہ ۱۲/ ستمبر ۱۹۳۹ء)

○ ”یہی وہ فرقہ (یعنی قادیانی فرقہ) ہے جو دن رات کوشش کر رہا ہے کہ مسلمانوں کے خیالات میں سے جماد کی بیہودہ رسم کو اٹھا دے“ (”ازریو آف ریلیجز“ ص ۵۳-۵۳۸)

○ ”دیکھو میں (غلام احمد قادیانی) ایک حکم لے کر آپ کے پاس آیا ہوں، وہ یہ ہے کہ اب سے تلوار کے جماد کا خاتمہ ہے۔“ (رسالہ گورنمنٹ ”انگریز اور جماد“ ص ۱۳، مصنف مرزا قادیانی)

○ ”اب سے زمینی جماد بند کئے گئے اور لڑائیوں کا خاتمہ ہو گیا۔“ (ضمیمہ ”خطبہ الہامیہ“ ص ۱، مصنف مرزا قادیانی)

○ ”سو آج سے دین کے لیے لڑنا حرام کیا گیا۔“ (ضمیمہ ”خطبہ الہامیہ“ ص ۱، مصنف مرزا قادیانی)

○ ”جو شخص میری بیعت کرتا ہے اور مجھ کو مسیح موعود مانتا ہے۔ اسی روز سے اس کو یہ عقیدہ رکھنا پڑتا ہے کہ اس زمانہ میں جماد قطعی حرام ہے۔ کیونکہ مسیح آچکا، خاص کر میری تعلیم کے لحاظ سے اس گورنمنٹ انگریزی کا سچا خیر خواہ اس کو بنا پڑا ہے۔“ (گورنمنٹ انگریزی اور جماد، ضمیمہ، ص ۷، مصنف مرزا قادیانی)

○ ”اور میں نے بائیس برس سے اپنے ذمہ یہ فرض کر رکھا ہے کہ ایسی کتابیں جن میں جماد کی مخالفت ہو اسلامی ممالک میں ضرور بھیج دیا کرتا ہوں۔ اسی وجہ سے میری عربی کتابیں عرب کے ملک میں بھی شہرت پا گئی ہیں۔“ (تحریر مرزا قادیانی، مورخہ ۱۸/ نومبر ۱۹۰۱ء مندرجہ تبلیغ رسالت، جلد ص ۲۶)

○ ”میں نے یہ کتابیں اسلام کے دو مقدس شہروں مکہ اور مدینہ میں بخوبی شائع کی ہیں اس کے علاوہ روم کے پایہ تخت، قسطنطنیہ، بلاد شام، مصر اور افغانستان کے متفرق شہروں میں جہاں تک ممکن تھا، ان کی اشاعت کی ہے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ لاکھوں انسانوں نے جماد کے وہ غلیظ خیالات چھوڑ دیئے جو نافرمانیوں کی تعلیم سے ان کے دلوں میں تھے۔ مجھے اس خدمت پر فخر ہے، کہ برٹش انڈیا کے تمام مسلمانوں میں سے اس کی کوئی نظیر کوئی مسلمان نہیں دکھلا

سکتا۔ ”(”تبلغ رسالت“ جلد ہفتم، مصنف مرزا قادیانی)

○ ”جیسے جیسے میرے مرید بڑھیں گے، ویسے ویسے جہاد کے مقصد کم ہوتے جائیں گے کیونکہ مجھے مسیح و مہدی مان لینا ہی مسئلہ جہاد کا انکار کرنا ہے۔“ (”تبلغ رسالت“ جلد ہفتم، ص ۱۷، مصنف مرزا قادیانی)

○ ”میں سولہ برس سے برابر اپنی تالیفات میں اس بات پر زور دے رہا ہوں کہ مسلمانان ہند پر اطاعت گورنمنٹ برطانیہ فرض اور جہاد حرام ہے۔“ (”تبلغ رسالت“ جلد سوم، ص ۱۹۶، مصنف مرزا قادیانی)

○ میری عمر کا اکثر حصہ اس سلطنت انگریزی کی تائید اور حمایت میں گزرا ہے اور میں نے ممانعت جہاد اور انگریزی اطاعت کے بارہ میں اس قدر کتابیں لکھی ہیں اور اشتہارات شائع کیے ہیں کہ اگر وہ رسائل اور کتابیں اکٹھی کی جائیں تو پچاس الماریاں ان سے بھر سکتی ہیں۔ میں نے ایسی کتابوں کو تمام ممالک عرب اور مصر اور شام اور کابل اور روم تک پہنچا دیا ہے۔ میری ہمیشہ کوشش رہی ہے کہ مسلمان اس سلطنت کے سچے خیر خواہ ہو جائیں اور مہدی خونی اور مسیح خونی کی بے اصل روایتیں اور جہاد کے جوش دلانے والے مسائل جو امتوں کے دلوں کو خراب کرتے ہیں، ان کے دلوں سے معدوم ہو جائیں۔ (”تربیاتی القلوب“ ص ۱۵، ”روحانی خزائن“ ص ۱۵۶، ۱۵۵، ج ۱۵، مصنف مرزا قادیانی)

○ میں نے بیسیوں کتابیں عربی اور فارسی اور اردو میں اس غرض سے تالیف کی ہیں کہ اس گورنمنٹ محنت سے ہرگز جہاد درست نہیں بلکہ سچے دل سے اطاعت کرنا ہر ایک مسلمان کا فرض ہے۔ چنانچہ میں نے یہ کتابیں بصرہ زکیر چھاپ کر بلاد اسلام میں پہنچائی ہیں اور میں جانتا ہوں کہ ان کتابوں کا بہت سا اثر اس ملک پر بھی پڑا ہے اور جو لوگ میرے ساتھ مریدی کا تعلق رکھتے ہیں وہ ایک ایسی جماعت تیار ہوتی جاتی ہے کہ جن کے دل اس گورنمنٹ کی سچی خیر خواہی سے لبالب ہیں۔ (عریشہ بعالی خدمت گورنمنٹ عالیہ انگریزی منجانب مرزا قادیانی مندرجہ ”تبلغ رسالت“ جلد ششم ص ۶۵، مجموعہ اشتہارات، ص ۳۶۷، ۳۶۶ ج ۲)

○ پھر میں پوچھتا ہوں کہ جو کچھ میں سرکار انگریزی کی امداد اور حفظ امن اور جمادی خیالات کے روکنے کے لیے برابر سترہ سال تک پورے جوش سے پوری استقامت سے کام

لیا کیا اس کام کی اور اس خدمت نمایاں کی اور اس مدت دراز کی دوسرے مسلمانوں میں جو میرے مخالف ہیں کوئی نظیر ہے؟ (کوئی) نہیں۔ (کتاب البریہ اشتہار، مورخہ ۲۰ ستمبر ۱۸۹۷ء، ص ۷، روحانی خزائن، ص ۸، ج ۱۳، مجموعہ اشتہارات، ص ۴۶۳، ج ۲، مصنفہ مرزا غلام احمد قادیانی صاحب)

اے مرزا قادیانی اتو ساری زندگی جہاد کو حرام حرام کھتا رہا اور یہی شیطانی ورد کرتا کرتا تو ہاویہ میں جا پہنچا۔۔۔۔۔ تو نے سوچا تھا کہ تو ملت اسلامیہ کے شاہینوں کو کرسوں میں تبدیل کر دے گا۔۔۔۔۔ جذبہ جہاد کو جب دنیا میں بدل دے گا۔۔۔۔۔ شوق شہادت کو شوق سیم و زر میں منتقل کر دے گا۔۔۔۔۔ جنگجو قوم کو جنگ فرار قوم میں بدل دے گا۔۔۔۔۔ اللہ کے آگے جھکنے والوں کو فرنگی کے سامنے جھکا دے گا۔۔۔۔۔ لیکن۔۔۔۔۔

مرزا قادیانی۔۔۔۔۔ دیکھ۔۔۔۔۔ ملت اسلامیہ نے اسی جذبہ جہاد سے سرشار ہو کر اور شہادتوں کے جام پی کر تیرے آقا انگریز ملعون کی حکومت کا ہندوستان سے بستر گول کر دیا اور اسے دھکیل کر برطانیہ پہنچا دیا۔۔۔۔۔ اور پھر اسی سرزمین پر ایک آزاد اسلامی ملک ”پاکستان“ کی بنیاد رکھی۔ پھر پاکستان میں ایک جہادی تحریک چلا کر تیرے شیطانی چیلوں کو پارلیمنٹ کے ذریعے کافر قرار دلایا۔۔۔۔۔ اور پھر ایک اور جہادی یلغار کر کے تیرے پوتے اور نام نہاد خلیفہ مرزا طاہر کو پاکستان سے بھگا کر تیرے آقا کے ہاں برطانیہ پہنچایا اور اب اس کا تعاقب کرتے ہوئے برطانیہ پہنچ چکے ہیں۔۔۔۔۔ برطانیہ کے شہروں میں ختم نبوت کے دفاتر کھل چکے ہیں۔۔۔۔۔ ختم نبوت کانفرنسیں ہو رہی ہیں اور برطانیہ کی فضاؤں میں ختم نبوت زندہ باد کے نعرے گونج رہے ہیں تاکہ انگریز بھی سن لے کہ اس کی جھوٹی نبوت کے تار و پود بکھر چکے ہیں۔

وقت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے

دہر میں اسم محمد سے اجالا کر دے

مرزا قادیانی دیکھ۔۔۔۔۔ جن مسلمانوں سے تو نے جذبہ جہاد چھیننے کی کوشش کی تھی۔۔۔۔۔ انہی مسلمانوں نے جذبہ جہاد سے لیس ہو کر دنیا کی دوسری سپر پاور روس کے پرچم اٹھائے اور آج بھی چھینیا کا مسلمان۔۔۔۔۔ کشمیر کا مسلمان۔۔۔۔۔ فلسطین کا مسلمان۔۔۔۔۔ بوسنیا کا مسلمان۔۔۔۔۔ بلغاریہ کا مسلمان اور دیگر کئی ملکوں کے مسلمان جذبہ جہاد سے لیس، کفار سے

برسر پیکار ہیں۔۔۔۔۔ اور عنقریب جماد کی برکت سے وہ وقت آنے والا ہے جب پوری دنیا پر مسلمانوں کی حکومت ہوگی۔۔۔۔۔ اور پورے عالم پر اسلام کا پرچم لہرائے گا۔ (انشاء اللہ)

وہ سنگِ گراں جو حائل ہیں، رستے سے ہٹا کر دم لیں گے
 ہم راہِ وفا کے رہو ہیں منزل ہی پہ جا کر دم لیں گے
 یہ بات عیاں ہے دنیا پر ہم پھول بھی ہیں تلوار بھی ہیں
 یا بزمِ جہاں مکائیں گے یا خوں میں نما کر دم لیں گے
 ہم ایک خدا کے قائل ہیں پندار کا ہر بت توڑیں گے
 ہم حق کا نشان ہیں دنیا میں باطل کو مٹا کر دم لیں گے
 جو سینہ دشمن چاک کرے باطل کو مٹا کر خاک کرے
 یہ روز کا قصہ پاک کرے وہ ضرب لگا کر دم لیں گے
 یہ فتنہ و شر کے پروردہ تخریب کے سامان لاکھ کریں
 ہم بزمِ سجانے آئے ہیں ہم بزمِ سجا کر دم لیں گے



أَنَا خَاتِمُ النَّبِيِّينَ
لَا نَبِيَّ
بَعْدِي

ختم نبوة پلسان

اک مجاہدہ ختم نبوت کا ایثار

چودھری افضل حق مرحوم و مغفور لاہور میں بیٹھ کر قادیان کی ڈائری سے حالات کا مطالعہ کر رہے تھے۔ مولانا عنایت اللہ انہیں تبلیغی میدان کی کیفیت سے آگاہ کرتے اور کبھی بھی لاہور آکر مرحوم سے ہدایات حاصل کر کے قادیان واپس چلے جاتے تھے۔ چودھری صاحب نے تبلیغی میدان کو وسعت دینے کا پروگرام بنا لیا۔ ایک مکان مولانا عنایت اللہ صاحب کے نام پر خریدا جا چکا تھا۔ اس سے فائدہ یہ ہوا کہ احرار قادیان کے باشندے بن گئے۔ دل میں خلوص اور ارادے نیک ہوں تو قدرت امداد کرتی ہے۔ انہی دنوں حضرت امیر شریعت سید عطاء اللہ شاہ صاحب بخاری نے دہلی کی تبلیغ کانفرنس میں مسلمانان دہلی سے قادیان کے محاذ کے لیے امداد کی اپیل کی۔ ایک مخیر اور نیک دل معزز خاتون نے زمین خریدنے کے لیے چھ ہزار روپے کا چیک بھیج دیا۔ زمین خرید لی گئی، کچھ اور رقم آئی تو کچھ اور زمین خرید لی گئی۔ غرضیکہ احرار نے مضبوطی سے کفرستان میں جھنڈا گاڑ دیا۔

(”تحریک ختم نبوت ۱۹۵۳ء“ ص ۲۲، مولانا اللہ وسایا)

مگر وطن کے امیرو! سوال کرتا ہوں
دیا ہے مال کبھی شاہ دو جہاں کے لیے

اتحاد امت کا ایک منظر

صاحبزادہ گولڑہ شریف اور راولپنڈی کے مشہور عالم دین مولانا غلام اللہ خاں کا اختلاف کوئی ڈھکی چھپی چیز نہیں لیکن حضرت پیر گولڑہ شریف نے اعلان کیا:
”حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کے تحفظ کے لیے میں مولانا غلام اللہ خاں کے جوتے بھی اٹھانے کے لیے تیار ہوں۔“

(”تحریک ختم نبوت ۱۹۵۳ء“ ص ۱۷۹، مولانا اللہ وسایا)

ایک ہوں مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے
نیل کے ساحل سے لے کر تاجخاک کا شفر

امیر شریعت سید عطاء اللہ شاہ بخاری کی تڑپ

شاہ جی پورے جوہن پر تھے، بے انداز مجمع گوش بر آواز، عشق رسول کی بھٹی گرم، اکابر اور اساطین ملت جلوہ افروز، شہر میں مکمل ہڑتال اور سناٹا، تحریک ختم نبوت کے لیے مسلمان جانیں دینے کے لیے آمادہ۔ کسی نے کہا کہ خواجہ ناظم الدین لاہور پہنچ گئے۔ شاہ جی نے فرمایا ساری باتوں کو چھوڑیے لاہور والو کوئی ہے اور یہ کہتے ہوئے اپنے سر سے ٹوپی اتاری اور ٹوپی کو ہوا میں لہراتے ہوئے نہایت ہی جذبات انگیز الفاظ میں فرمایا جاؤ میری اس ٹوپی کو خواجہ ناظم الدین کے پاس لے جاؤ۔ میری یہ ٹوپی کبھی کسی کے سامنے نہیں جھکی۔ اسے خواجہ صاحب کے قدموں پر ڈال دو۔ اس سے کہو ہم تیرے سیاسی حریف اور رقیب نہیں ہیں۔ ہم الیکشن نہیں لڑیں گے، تجھ سے اقتدار نہیں چھینیں گے۔ ہاں جاؤ اور میری ٹوپی اس کے قدموں میں ڈال کر یہ بھی کہو کہ اگر پاکستان کے بیت المال میں کوئی سوراہا ہے تو عطاء اللہ شاہ بخاری تیرے سوؤروں کا وہ ریوڑ چرانے کے لیے بھی تیار ہے۔ مگر شرط صرف یہ ہے کہ رسول اللہ فداہ ابی و امی کی ختم رسالت کی حفاظت کا قانون بنا دے، کوئی آقا کی توہین نہ کرے۔ آپ کی دستار ختم نبوت پر کوئی ہاتھ نہ ڈال سکے۔ شاہ جی بول رہے تھے، اور مجمع بے قابو ہو رہا تھا۔ لوگ دھاڑیں مار مار کر رو رہے تھے۔ چشم فلک نے اس جیسا ساں بھی کم دیکھا ہو گا۔ عوام و خواص سب رو رہے تھے۔ شاہ جی پر خاص وجد کی سی کیفیت طاری تھی۔

(”تحریک ختم نبوت ۱۹۵۳ء“ ص ۲۵۴، مولانا اللہ وسایا)

ہم نے ہر دور میں تقدیس رسالت کے لیے وقت کی تیز ہواؤں سے بغاوت کی ہے توڑ کر سلسلہ رسم سیاست کا فسوں اک فقط نام محمدؐ سے محبت کی ہے ہم نے بدلا ہے زمانے میں محبت کا مزاج ہم نے ہر دل کو نئی راہ و نوا بخشی ہے مرطے بند و سلاسل کے کئی طے کر کے چہرہ دار و رسن کو بھی ضیاء بخشی ہے

شاعر ختم نبوت سید امین گیلانی اپنی جیل کا واقعہ بیان کرتے ہیں:

”میانوالی جیل سے صبح میں رہا ہونے والا تھا مگر مجھے خطرہ تھا کہ میری سرگرمیوں کے پیش نظر میری سزا جیل کے اندر ہی بڑھانے کا حکم نہ آجائے۔

داروغہ جیل بھلا آدمی تھا اور حافظ قرآن بھی تھا۔ وہ شام کو ہماری بارک میں آیا۔ میں نے کہا حافظ صاحب صبح میری رہائی ہے یا کوئی نیا حکم آگیا ہے۔ کہنے لگا دو دفعہ لاہور سے ٹیلی فون آیا ہے مگر گڑبڑ بہت ہے۔ کچھ سنا سمجھانہ گیا، کٹ ہوتا رہا۔ خیر صبح ہوئی، مجھے دفتر بلا یا گیا اور دفتری کارروائی کر کے رہا کر دیا گیا۔ میں جب دوسرے دن شیخوپورہ پہنچا تو سب حیران ہو گئے۔ پتہ چلا کہ یہاں کے سی۔ آئی ڈی انسپکٹر نے مجھے خطرناک ثابت کر کے سنٹر سے سزا بڑھانے کا حکم نامہ میانوالی بھجوا دیا ہے اور فون پر داروغہ جیل میانوالی کو اطلاع دی تھی کہ امین گیلانی کو رہانہ کیا جائے۔ تحریری حکم نامہ بذریعہ ڈاک آ رہا ہے لیکن میں رہا ہو چکا تھا اور اب نئے وارنٹ تیار کر کے ہی دوبارہ گرفتار کیا جاسکتا تھا لیکن نیا خطرہ مول لینے کے ڈر سے ایسا نہ کیا گیا۔ یوں مرزائی آفیسر فخر الدین کے کیے دھرے پر پانی پھر گیا۔“

جو وہ چاہے سو ہی ہو

(”عجیب و غریب واقعات“ ص ۲۰، سید امین گیلانی)

عغمگساری و سرپرستی

قطب عالم حضرت عبدالقادر رائے پوری کو مجاہدین ختم نبوت سے جو محبت و چاہت تھی اس کی ایک جھلک ملاحظہ فرمائیے:

”مولانا سید عطاء اللہ شاہ بخاری اور مولانا حبیب الرحمن صاحب لدھیانوی سے جو قلبی تعلق تھا وہ کسی سے مخفی نہیں۔ ان حضرات کے جیل جانے کے بعد ان کے خاندان اور پسماندہ افراد کی فکر رکھتے اور ان سب کی ذمہ داری محسوس فرماتے۔“

مولانا محمد علی ”جالندھری لکھتے ہیں:

”مولانا حبیب الرحمن منگمری جیل میں جب نظر بند تھے، ملاقات کی کسی کو اجازت نہ تھی۔ میں رائے پور حاضر ہوا۔ فرمایا کہ مولانا حبیب الرحمن سے ملاقات اگر کسی طرح ہو جائے تو بہت اچھا ہے، دل ملاقات کو چاہتا ہے۔ میں نے عرض کیا حضرت میں انتظام کروں گا۔ اس پر بہت ہی خوشی کا اظہار فرمایا۔ فرمایا ضرور کوئی انتظام کریں۔ سخت سردی کا زمانہ تھا۔ میں نے ایک ایم۔ ایل اے کے ذریعہ جو میرا ملاقاتی تھا وزیر جیل منوہر لال سے اجازت لی۔ بذریعہ تار ملتان اجازت کی اطلاع ملی۔ میں نے رائے پور اطلاع دی۔ حضرت والا سخت سردی میں منگمری تشریف لائے۔ میں اسٹیشن پر پہلے سے موجود تھا۔ رات منگمری میں ایک دوست کے ہاں قیام کرایا، صبح مولانا حبیب الرحمن سے ملاقات ہوئی۔“

(”سوانح حضرت مولانا عبد القادر رائے پوری“ ص ۲۹۲، از مولانا سید ابوالحسن ندوی)

وہ لوگ اب کہاں ہیں وہ چہرے کدھر گئے
یہ شہر حسن کس کی تجھے بد دعا لگی

حضرت رائے پوری اور شاہ جی

مولانا سید عطا اللہ شاہ بخاری کے متعلق بڑے بلند کلمات فرماتے تھے اور ان سے اور ان کی وجہ سے ان کے خاندان سے بڑی محبت و شفقت کا برتاؤ کرتے تھے۔ ایک مرتبہ فرمایا کہ تم بخاری صاحب کو یوں ہی نہ سمجھو کہ صرف لیڈر ہی ہیں۔ انہوں نے ابتدا میں بہت ذکر کیا ہے اور فرمایا کہ یقیناً تو اللہ تعالیٰ نے ان کو ایسا نصیب فرمایا ہے کہ باید و شاید میاں حالات و کیفیات کیا چیز ہے اصل تو یقین ہی ہے، اللہ تعالیٰ جس کو عطا فرمادے۔ مولانا محمد علی صاحب جالندھری فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ حضرت کے سامنے بخاری صاحب کے لڑکوں کا تذکرہ آیا۔ فرمایا کہ شاہ صاحب کے لڑکے ہیں، میں تو ان کا نوکر ہوں۔

(”سوانح حضرت مولانا عبد القادر رائے پوری“ ص ۲۹۳، از مولانا سید ابوالحسن ندوی)

درد کچھ معلوم ہے یہ لوگ سب
کس طرف سے آئے تھے کدھر چلے

ہمیں اللہ نے بچالیا

یہ اس زمانے کی بات ہے جب خواجہ ناظم الدین کا دور حکومت تھا اور قادیانی فتنہ کے خلاف مشرقی اور مغربی پاکستان کے تمام صلحاء علماء اور زعماء کراچی میں جمع ہو کر اس فتنے کے استیصال کا طریقہ کار سوچ رہے تھے۔ ایک روز ہم دفتر مجلس ختم نبوت بند روڈ کراچی میں بیٹھے ہوئے تھے۔ مرزا غلام احمد دجال کی ذات موضوع سخن تھی۔ ایک مولانا جن کی عمر اس وقت پچاس پچپن برس کی ہوگی، وہ بھی تشریف رکھتے تھے۔ مجھے معلوم ہوا کہ یہ صاحب دارالعلوم دیوبند کے فارغ ہیں اور ان کے بڑے بھائی دارالعلوم میں مدرس بھی رہ چکے ہیں۔ ان مولانا کا نام مجھے یاد نہیں رہا۔ انہوں نے گفتگو میں حصہ لیتے ہوئے فرمایا کہ طالب علمی کے زمانہ میں ہم غالباً آٹھ طالب علم ایک دفعہ مرزائی مبلغ و مناظر کے پھندے میں پھنس گئے۔ ہم اپنی کم علمی اور کم عمری کے باعث اس کے دلائل کو کو قیغ سمجھ کر مرزا غلام احمد کے نبی ہونے کا نعوز باللہ گمان کرنے لگے اور باہم یہ مشورہ کیا کہ فی الحال اس بات کو پوشیدہ رکھیں گے تاکہ دارالعلوم سے ہمیں خارج نہ کر دیا جائے اور ہم اپنے والدین کو بھی کیا منہ دکھائیں گے۔ یہ طے کر کے ہم سب طالب علم واپس دارالعلوم میں آ گئے۔ رات جب سو گئے تو سب نے ایک ہی خواب دیکھا۔ کیونکہ صبح جب آپس میں طے تو سب نے اپنا اپنا خواب بیان کیا تو وہ ایک ہی خواب تھا۔ جو بیک وقت ہم سب نے دیکھا۔

خواب

کوئی شہر ہے، بازار میں منادی ہو رہی ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم فلاں مسجد میں تشریف لائے ہوئے ہیں۔ جس نے زیارت کرنی ہو وہاں پہنچ جائے۔ چنانچہ ہر طالب علم نے کہا کہ میں بھی وہاں پہنچا تو دیکھا واقعی آنحضور صلی اللہ علیہ وسلم مسجد کے صحن میں تشریف فرما ہیں۔ میں حاضر خدمت ہو کر سلام عرض کرتا ہوں۔ پھر یہ عرض کرتا ہوں کہ یا رسول اللہ غلام احمد قادیانی واقعی نبی ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انا خاتم النبیین لا نبی بعدی پھر ایک طرف انگلی سے اشارہ فرما کر کہا کہ ادھر دیکھو! دیکھا تو ایک گول دائرہ ہے جس میں آگ بھڑک رہی ہے اور ایک شخص اس آگ میں جل رہا ہے اور تڑپ تڑپ کر چیخ

رہا ہے۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ”یہ غلام احمد ہے“ اس خواب کے بعد ہم سب نے توبہ کی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری نبی ہونے پر یقین محکم ہو گیا۔

(”حدیث خواب“ ص ۲۲-۲۳ از سید امین گیلانی)

الہی محفوظ رکھنا ہر بلا سے
خصوصاً آج کل کے انبیاء سے

مسلمانوں کے ایمان کا محافظ

مولانا محمد علی (موتگیری) کا ایک اہم کارنامہ جس کے ذکر کے بغیر ان کی تاریخ نامکمل رہے گی، قادیانیت کا مقابلہ اور سرکوبی ہے۔ انہوں نے اس کے لیے اپنی پوری قوت صرف کر دی اور جب تک اس مہم میں کامیاب نہ ہوئے، اطمینان کی سانس نہ لی۔ انہوں نے قادیانیت کی تردید میں سو سے زائد کتابیں اور رسائل تصنیف کیے ہیں جس میں سے صرف ۴۰ کتابیں ان کے نام سے طبع ہوئیں اور بقیہ دوسرے نام سے۔ انہوں نے اس کو وقت کا افضل ترین جہاد قرار دیا اور اس کے لیے لوگوں کو ہر قسم کی کوشش اور قربانی پر آمادہ کرنے کی کوشش کی اور بڑی دلسوزی کے ساتھ اس کی اہمیت سمجھائی۔ ان کوششوں سے بہار (جس پر قادیانیوں نے اس زمانہ میں بھرپور حملہ کیا تھا اور بڑی تعداد میں مسلمان اس کا شکار ہو رہے تھے) اس خطرہ سے محفوظ ہو گیا اور ہندوستان کے اور دوسرے علاقوں میں بھی جہاں کہیں مولانا کی تصنیفات پہنچیں یا مولانا کے مبلغین پہنچے قادیانیت کے قدم اکھڑ گئے۔ مسلمانوں پر اس نئے دین کی حقیقت اچھی طرح واضح ہو گئی اور ہزاروں لاکھوں مسلمان اس فتنہ سے محفوظ ہو گئے۔

(”سیرت مولانا محمد علی موتگیری“ ص ۲۹۱-۲۹۲ از سید محمد الحسنی)

ہوشیار اے ختم نبوت کے محافظ
کس کام میں مصروف ہے باطل کی ہوا دیکھ

فخر المحدثین سید انور شاہ کشمیریؒ کی نصیحت

۲۰ سال کی عمر میں دارالعلوم دیوبند سے وہ مروجہ درس نظامی کی سند تکمیل لے کر نکلے

اور یوں ان کی پر عبرت کتاب زندگی کا ایک سبق آموز باب مکمل ہو گیا۔ جس دن دارالعلوم سے نکل رہے تھے اس دن سید انور شاہ کشمیری نے الگ بلا کر کہا ”تحفظ ختم نبوت کو اپنا مشن بنا لینا“ فرمایا کرتے تھے جب میں دارالعلوم سے نکلا تو میرے ذہن میں دو باتوں سے سوا کچھ نہیں تھا۔ ایک انگریز سے نفرت، دوسرا مرزا غلام احمد قادیانی کی جھوٹی نبوت کے خلاف جہاد کا جذبہ۔ گویا کہ میری سند میں انہیں دو مضمونوں سے فراغت کی شہادت درج تھی۔

(”حضرت مولانا محمد علی جالندھری“ ص ۳۰-۳۱ از ڈاکٹر نور محمد غفاری)

جلا رہا ہوں اس سے نفس میں چراغ
تیری نظر نے جو بخشی تھی آج ہلکی سی

حضرت رائے پوری کی شاہ جی سے والہانہ محبت

مولانا سید عطا اللہ شاہ بخاری کے متعلق بڑے بلند کلمات فرماتے تھے اور ان سے اور ان کی وجہ سے ان کے خاندان سے بڑی محبت و شفقت کا برتاؤ فرماتے تھے۔ ایک مرتبہ فرمایا کہ تم بخاری صاحب کو یونہی نہ سمجھو کہ صرف لیڈر ہی ہیں۔ انہوں نے ابتدا میں بہت ذکر کیا ہے اور فرمایا کہ یقین تو اللہ تعالیٰ نے ان کو ایسا نصیب فرمایا ہے کہ باید و شاید۔ فرماتے یہاں حالات و کیفیات کیا چیز ہیں اصل تو یقین ہی ہے۔ اللہ تعالیٰ جس کو عطا فرمادے۔ حضرت کو شاہ صاحب سے جو محبت اور خصوصیت تھی وہ ان کے اخلاص، خود فراموشی، دینی خدمت میں انہماک اور اس نفع کی بنا پر تھی جو ان کی ذات اور ان کی ایمان افروز تقریروں سے عظیم مجموعوں میں پہنچتا تھا۔ خود شاہ صاحب اپنی تقریروں کی روح اور اپنی زبان کے اثر اور محبت و جفاکشی اور قید و بند کے تحمل کا راز اللہ کے ایک مخلص اور مقبول بندہ یعنی حضرت اقدس کے ساتھ تعلق اور ان کی دعاؤں اور محبت کو سمجھتے تھے اور اس پر ان کو بڑا ناز اور اعتماد تھا۔

(”حیات طیبہ“ ص ۳۰، از ڈاکٹر محمد حسین انصاری)

زندگی جن کے تصور سے جلا پاتی تھی
ہائے کیا لوگ تھے جو دام اجل میں آئے

حضرت عبدالقادر رائے پوری، تحریک ختم نبوت کے جرنیل

اس دور کا ایک بہت بڑا فتنہ انکار ختم نبوت سے پیدا ہوا اور منکرین ختم نبوت نے برصغیر پاک و ہند کے علاوہ دوسرے ممالک میں بھی تبلیغ اسلام کے نام سے ہزاروں مسلمانوں کو مرتد کیا۔ حضرت اقدس نے قادیانیت کے آغاز اور اس کے سب ادوار اپنی آنکھوں سے دیکھے تھے۔ خود بانی قادیانیت اور حکیم نور الدین وغیرہ کو قریب سے دیکھا تھا۔ آپ اس تحریک کے حقیقی مقاصد اور اس کے اندرونی حالات سے بخوبی آگاہ تھے اور انگریز کے اس خود کاشتہ پودے کو اسلام کی بیج مٹی اور تخریب کا ذریعہ سمجھتے تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی سے عشق و محبت کا جو تعلق اور حضور کے خاتم النبیین ہونے پر جو اعتماد و یقین تھا اس کی بنا پر آپ نبوت کے ہر مدعی کو نبوت محمدی کا رقیب و حریف سمجھتے تھے اور اس سے آپ کو ایسی نفرت اور غیرت آتی تھی، جیسے ایک غیرت مند عاشق اور ایک وفادار غلام کو آنی چاہیے۔ یہی جذبہ تھا جس نے آپ سے پہلے مولانا سید محمد علی مونگیریؒ، مولانا محمد انور شاہ کشمیریؒ، مولانا ثناء اللہ امرتسریؒ اور مولانا پیر مر علی شاہ گولڑویؒ اور دوسرے اکابرین اسلام کو مضطرب اور بے قرار بنا رکھا تھا اور انہوں نے قادیانیت کی مخالفت کو اپنے لیے افضل عبادت اور افضل جہاد سمجھا تھا۔

حضرت اقدس نے اس میدان میں بھی نمایاں کام کیا۔ آپ نے ”مجلس احرار اسلام“ اور ”مجلس تحفظ ختم نبوت“ کو مستقل طور پر قادیانیت کی بیج مٹی اور استیصال کے کام پر لگا دیا۔ ”مجلس احرار اسلام“ اور ”مجلس تحفظ ختم نبوت“ میں درحقیقت آپ ہی کا جذبہ اور آپ ہی کی روح کام کر رہی تھی۔ آپ اس سلسلہ کی ہر کوشش کو وقت کا اہم فریضہ اور دین کی اہم خدمت سمجھتے تھے اور ہر طرح اس کی ہمت افزائی اور سرپرستی فرماتے تھے اور اپنی ہمت باطنی اور قلبی و روحانی توجہ سے اس کام کی تقویت کو ضروری سمجھتے تھے اور ان کوششوں کے تذکرہ سے آپ کے اندر شگفتگی اور تازگی پیدا ہوئی تھی اور وہ آپ کی روح کی غذا بن گئی تھی۔

اس سلسلہ میں جو لوگ نمایاں حصہ لیتے تھے اور جنہوں نے رات دن ایک کر رکھا تھا جیسے سید عطاء اللہ شاہ بخاریؒ ان سے حضرت کو نہایت محبت تھی اور ان کی بڑی قدر کرتے تھے اور مولانا سید عطاء اللہ شاہ بخاری کے بعد مولانا محمد علی جالندھریؒ پیش پیش تھے۔ حضرت ان سے بھی بڑی محبت و شفقت فرماتے تھے اور ان کا بڑا اکرام فرماتے تھے۔ اسی طرح مولانا حیات صاحب (جن کو قادیانیوں اور لاہوری مرزائیوں کی کتابیں ازبر تھیں) قاضی احسان احمد صاحب اور مولانا لال حسین اختر کو بلا بھیجتے اور ان کے مرزائیوں کے ساتھ جو مناظرے اور مباحثے ہوتے، ان کی روداد سنتے تھے۔ آخری عمر میں حضرت اقدس کی رد مرزائیت کی طرف بہت زیادہ توجہ ہو گئی تھی اور صبح شام کی مجالس میں بھی مذکورہ بالا حضرات کے مباحث سنتے تھے اور ان سے کسی طرح سیری نہیں ہوتی تھی۔ جیسا کہ قارئین کو اس کتاب کے آخر میں حضرت کی چند مجالس کی روداد سے معلوم ہوگا۔

اس سلسلہ میں مولانا محمد ابراہیم صاحب سیالکوٹی کی کتاب ”شہادت القرآن“ کو بڑی قدر کی نگاہ سے دیکھتے تھے۔ اسے کئی بار مجالس میں پڑھوایا تھا اور اس کے دوبارہ اشاعت کا اہتمام کیا گیا جو علماء ادھر ادھر کے مسائل اور فقہی اور اختلافی مسائل میں الجھے رہتے تھے، حضرت کو ان سے بڑا صدمہ ہوتا تھا۔ حضرت ان مباحث میں نہیں پڑتے تھے بلکہ اہم کام رد مرزائیت کو قرار دیتے تھے۔

۱۹۵۳ء میں پاکستان میں جو تحریک ختم نبوت چلی تھی، حضرت اس کی طرف ہمہ تن متوجہ رہے۔ اپنے بہت سے متوسلین مولانا محمد صاحب انوریؒ اور دوسرے حضرات کو احرار رہنماؤں کے دوش بدوش اس کام پر لگایا اور یہ سب لوگ جیلوں میں رہے۔ خود حضرت کو اس تحریک کے دوران بڑی فکر مندی رہی اور اس کا اثر پورے طور پر آپ کی طبیعت، قویٰ فکریہ اور اعضاء و جوارح پر مستولی رہا۔ بھائی محمد افضل صاحب (سلطان فونڈری لاہور والے) کا بیان ہے کہ جس زمانہ میں تحریک ختم نبوت کے رہنماؤں پر مقدمہ چل رہا تھا اور مولوی مظہر علی اظہر احرار رہنماؤں کے پیروکار اور وکیل تھے، حضرت نے لاہور میں ایک روز مجھ سے فرمایا کہ کل ذرا سویرے موٹر لے آنا، کہیں چلیں گے۔ میں موٹر لے کر حاضر ہوا۔ حضرت مولوی مظہر علی اظہر کی کونٹھی پر تشریف لے گئے اور تنہائی میں دیر تک ان کے ساتھ

گفتگو کی اور مشورے دیے۔ خاصی دیر کے بعد باہر تشریف لائے۔

چونکہ قادیانی تبلیغی مشن کے نام سے یورپ کے علاوہ عرب ممالک میں بھی کام کر رہے تھے اور عرب ممالک کے اکثر لوگ اس تحریک کی حقیقت سے ناواقف تھے اور عربی زبان میں کوئی کتاب قادیانیت پر نہ تھی اس لیے حضرت اقدس نے خاص طور پر مولانا سید ابوالحسن علی ندوی مدظلہ کو حکم دیا کہ آپ عربی زبان میں قادیانیت پر ایک کتاب لکھ دیں۔ اس کے لیے ان کو خود اپنے پاس لاہور میں ٹھہرایا اور صوفی عبدالحمید خان صاحب کی کوشی کا ایک کمرہ ان کے لیے مختص کر دیا گیا اور مولانا محمد حیات صاحب اور قاضی احسان احمد صاحب کو فرمایا کہ مرزا صاحب کی کتابیں اور ان کے رد میں جو کچھ لکھا گیا ہے، وہ مولانا کو مہیا کریں۔ چنانچہ مولانا موصوف نے صرف ایک ماہ میں ۲۷ فروری ۱۹۵۸ء کو عربی زبان میں قادیانیت پر ایک تحقیقی اور جامع کتاب "القادیانی والقادیانیت" مرتب کی جو خوبصورت عربی ٹائپ میں طبع ہو گئی اور مصروف شام نیز افریقہ کے ان حصوں میں، جہاں قادیانیت نے فروغ حاصل کرنا شروع کیا تھا اس نے بڑی مفید خدمت انجام دی اور کہیں کہیں اس نے پشتہ کا کام دیا۔ پھر ایک سال کے بعد اس عربی کتاب کا حضرت نے اردو ترجمہ کرنے کا حکم دیا اور ایک ماہ کے اندر اندر یہ کام بھی ہو گیا اور بہت سے اضافوں کے ساتھ "قادیانیت" کے نام سے یہ کتاب لاہور سے شائع ہوئی اور اس نے سنجیدہ حلقوں کو بہت متاثر کیا اور اخبارات و رسائل نے اس پر بڑے وقیع تبصرے شائع کیے۔ قادیانی حلقہ نے اس کتاب کا وزن محسوس کیا۔ خود حضرت نے مجلس میں کتاب پڑھوا کر سنی۔ اس تفصیل سے حضرت اقدس کے شغف اور اس فکر و اہتمام کا اندازہ ہو سکتا ہے جو آپ کو قادیانیت کے رد کے بارے میں تھا۔

(”حیات طیبہ“ ص ۱۳۲-۱۳۳-۱۳۴-۱۳۵، از ڈاکٹر محمد حسین انصاری)

جب بھی ماضی کے درپچوں پہ نظر جاتی ہے
دل میں طوفان اٹھاتی ہیں تمہاری یادیں

ہتھکڑیاں توڑ دیں

حضرت مولانا سید نیاز احمد شاہ صاحب گیلانی، امیر جمعیت علماء اسلام پنجاب اس تحریک

میں گرفتار ہوئے۔ آپ کی جوانی کا عالم تھا۔ آل رسولؐ مجاہد فی سبیل اللہ اور عالم دین تھے۔ ان کو ہتھکڑی لگائی گئی۔ جلال میں آکر ختم نبوت زندہ باد کا نعرہ لگایا، بازوؤں کو جھٹکا دیا تو ہتھکڑی ٹوٹ گئی۔ ہتھکڑی بدلی تو پھر اسی طرح ہوا۔ بالآخر پولیس والے قدموں میں گر گئے اور بغیر ہتھکڑی کے آپ کو گرفتار کر لیا۔ ("تحریک ختم نبوت ۱۹۷۳ء" ص ۷۱ از مولانا اللہ وسایا)

کوئی اندازہ کر سکتا ہے اس کے زور بازو کا
نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں

یہ انداز محبت

قطب عالم حضرت میاں عبدالمادی صاحب رحمۃ اللہ علیہ سجادہ نشین دین پور شریف اپنے بڑھاپے اور بیماری کے باعث چلنے پھرنے سے معذور تھے مگر اس تحریک ختم نبوت ۱۹۷۳ء سے آپ کی قلبی وابستگی کا یہ عالم تھا کہ آپ کے حکم کی تعمیل میں آپ کی چارپائی کو خان پور جلوس میں لایا گیا۔ ویگن پر چارپائی رکھی گئی۔ ان حالات میں آپ نے جلوس کی قیادت کی۔ خان پور کے اس جلوس میں حافظ الحدیث حضرت مولانا محمد عبداللہ درخواستی دیوبندی اور حضرت حافظ سراج احمد صاحب بریلوی آپ کے وائس بائیں ہمراہ تھے۔ شرکاء جب ختم نبوت کا نعرہ لگاتے تو حضرت میاں عبدالمادی صاحب رحمۃ اللہ علیہ اپنی تمام تر توانائیوں کو جمع کر کے "زندہ باد" سے جواب دیتے۔ مرزائیت مردہ باد کہتے تو آپ پر جلال کی کیفیت طاری ہوتی۔ رفقاء کو اشارہ سے بلا کر فرماتے کہ میاں دیکھو گواہ رہنا۔ کل قیامت کے دن رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ شفاعت میں گواہی دینا کہ یہ عاجز (آگے جو اپنی انکساری کے جیلے ارشاد فرمائے، فقیر لکھ نہیں سکتا) عبدالمادی محض اس عمل کے صدقہ سے نجات و شفاعت کی بھیک مانگے گا۔ گواہی دینا کہ عقیدہ ختم نبوت کے تحفظ ہی سے نجات ہوگی۔ نجات اور شفاعت حاصل کرنے کا یہ "شارٹ کٹ" راستہ ہے۔ انہیں حضرات کی ان اخلاص بھری دعاؤں اور جدوجہد کا نتیجہ ہے کہ یہ تحریک کامیابی سے ہمکنار ہوئی۔ دشمن اپنے کیے کی پارہا ہے اور اپنے زخم چاٹ رہا ہے۔

("تحریک ختم نبوت ۱۹۷۳ء" ص ۱۰۰ از مولانا اللہ وسایا)

انھوں کا عاشقان محمد کے مہرکاب
لکھا گیا ہے میری شفاعت کے باب میں

خون سے دستخط

لاہور، لائل پور، گوجرانوالہ، سیالکوٹ، ساہیوال، راولپنڈی، سرگودھا اور دوسرے تمام شہروں اور قصبوں میں حالت یہ تھی کہ رضا کار اپنے اپنے بھرتی کے مراکز پر آتے، جسم میں بڑی دلیری سے زخم لگاتے اور خون سے حلف نامے پر دستخط یا انگوٹھا ثبت کر دیتے تھے۔ رضا کاروں کا وہ جذبہ عفتنی نہیں، دیدنی تھا۔ بس ایسے معلوم ہوتا تھا جیسے ان نوجوانوں کے سینوں میں قرون اولیٰ کے مسلمانوں کے دل دھڑکنے لگ گئے ہیں اور یہ دنیا و ما فیہا سے منہ موڑ کر خواجہ غریب کی حرمت پر قربان ہو جانا چاہتے ہیں۔

(”تحریک ختم نبوت ۱۹۵۳ء“ ص ۱۲۶۵ از مولانا اللہ وسایا)

لگتا ہوں خون دل سے یہ الفاظ احمریں
بعد از رسول ہاشمی کوئی نبی نہیں

اور آنسو گرنے لگے

جب خواجہ ناظم الدین سے قاضی احسان احمد صاحب کی متعدد ملاقاتیں اور گفتگوئیں ہو چکیں، خواجہ صاحب کو مسئلہ ختم نبوت کی اہمیت کا علم ہوا اور ساتھ ہی انہیں یہ بھی معلوم ہوا کہ مرزائی افسروں کی سرگرمیاں سخت قابل اعتراض ہیں تو انہوں نے ایک سرکلر کیا کہ کوئی سرکاری افسر اپنے فرقہ کی تبلیغ میں حصہ نہیں لے گا۔ یہ سرکلر خاص طور پر مرزائیوں کی جارحانہ تبلیغی سرگرمیوں کے خلاف جاری ہوا تھا جیسا کہ اوپر ان کا ذکر ہو چکا ہے۔ ان دنوں قاضی صاحب مرحوم کو سنبھلنے اور وہاں کے پولیٹیکل ایجنٹ میاں امین الدین سے ملے۔ میاں امین الدین لاہور کے مشہور کشمیری راہنما میاں امیر الدین کے بھائی تھے۔ میاں امیر الدین میاں صلاح الدین جو کہ علامہ اقبال کے داماد ہیں، کے والد تھے۔

دونوں بھائیوں کی طبیعت میں بڑا فرق ہے۔ میاں امیر الدین عوامی قسم کے رہنما تھے

اور میاں امین الدین منکبر قسم کے صاحب لوگ تھے۔ قاضی صاحب نے ان سے ملاقات کا وقت مانگا۔ ۱۵ منٹ وقت ملا۔ آپ بھاری صندوق جو قادیانیوں کی کتابوں اور رسالوں سے بھرا ہوا تھا، اٹھا کر اندر پہنچ گئے۔ میاں صاحب کی گردن اکڑی ہوئی تھی۔ بولے کہ مختصر بات کریں۔ میرے پاس اتنا وقت نہیں ہے۔ قاضی صاحب نے کہا کہ میں آپ سے ایک پاکستان گیرفتہ کے متعلق بات کرنے آیا ہوں، جس کے عرائم میں یہ بات شامل ہے کہ وہ بلوچستان پر قبضہ کر لینا چاہتا ہے اور اسے احمدی صوبہ بنانے کا متمنی ہے۔ میاں صاحب نے بڑی رعوت سے کہا کہ آپ احمدیوں کی فکر نہ کریں، ہم اوپر بیٹھے ہوئے ہیں اور بلوچستان کو کوئی خطرہ نہیں ہے۔ قاضی صاحب نے فرمایا یہی تو بتانے آیا ہوں کہ خطرہ ہے۔

مرزائی سرکاری افسر تنخواہ حکومت کے خزانہ سے وصول کرتے ہیں اور کام اپنی جماعت کا کرتے ہیں۔ میاں صاحب نے بڑے عجیب طریقہ سے منہ بنا کر کہا کہ آپ اس کو چھوڑیے ہم نے اس کا بندوبست کر دیا ہے۔ ہم نے سرکلر کر دیا ہے کہ کوئی سرکاری افسر اپنے فرقہ کی تبلیغ نہ کرے۔ قاضی صاحب نے فرمایا کہ میں اس سلسلہ میں خواجہ صاحب سے کئی ملاقاتیں اور بحثیں کر چکا ہوں۔ تب جا کر یہ سرکلر ہوا۔ اب مرحلہ اس سرکلر پر عمل درآمد کا ہے، جو اب آپ حضرات کی ذمہ داری ہے اور میں آج اسی ذمہ داری کی طرف توجہ دلانے کے لیے حاضر ہوا ہوں۔ میاں صاحب کی اکڑی ہوئی گردن میں خم آگیا اور ذرا متواضع ہو کر بیٹھ گئے اور کہنے لگے کہ فرمائیے۔ قاضی صاحب نے صندوق لیا، حوالے پڑھنے شروع کر دیے۔ قادیانیوں کے کافرانہ عقائد، انبیاء و اولیاء کی توہین پر مشتمل عبارتیں، ملک کے خلاف عرائم اور عمل سنانا شروع کیا۔ جوں جوں قاضی صاحب پڑھتے جاتے، میاں صاحب کی گردن اور کمر میں خم بڑھتا جاتا۔ قاضی صاحب فرمایا کرتے تھے کہ مسئلہ ختم نبوت اس ذات عالی صفات کا مسئلہ ہے جس کے جلال اور جمال کی عظمت کا صدقہ کہیں نے اس دن میاں امین الدین گورنر بلوچستان کے گریبان میں ہاتھ ڈال لیا۔ میں اسے شفقت سے کھینچتا تھا، پھر پیچھے لے جاتا، پھر کھینچتا تھا اور وہ پکارا خاموش، آنکھوں سے آنسو جاری تھے اور کہتا تھا:

”قاضی صاحب ہمیں ان چیزوں کی پہلے خبر نہ تھی۔“ اڑھائی گھنٹے ملاقات ہوئی۔

(”تحریک ختم نبوت“ ۱۹۵۳ء، ص ۲۶۹-۲۷۰ از مولانا اللہ وسایا)

ہیں مٹانے والے ہم سب فتنہ اشراہ کو
اے خدا تو فتح دے اسلام کے احرار کو

ہار نہیں ہتھکڑیاں لاؤ

صاحبزادہ سید فیض الحسن شاہ صاحب دوسرے دن تقریر کے لیے شیخ پر تشریف لائے تو ایک رضاکار نے ان کے گلے میں پھولوں کا ہار ڈال دیا۔ صاحبزادہ نے ہار کو توڑا اور شیخ پر بیٹھے ہوئے لوگوں کی جانب پھینک کر فرمایا میرے عزیز یہ وقت ہار پہننے کا نہیں۔ سرور کونین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی آبرو کو خطرہ درپیش ہو اور میں ہار پہنوں، ہتھکڑیاں اور بیڑیاں لاؤ، ہمیں پابہ زنجیر کر کے دیکھو کہ ہمارے ماتھے پر شکن بھی آتا ہے۔ اس کے بعد اپنے مخصوص انداز میں صاحبزادہ نے موتی بکھیرنے شروع کیے۔ جلسے پر ایک سکوت طاری تھا اور صاحبزادہ صاحب حسب عادت ساون بھادوں کی طرح برس رہے تھے۔ صاحبزادہ کی تقریر نے مسلمانوں کے جذبہ ایمان کو اس طرح ابھارا کہ بسا اوقات لوگوں کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے۔ اس طرح رات کے ۱۲ بجے تک جلسہ ہوتا رہا۔

(”تحریک ختم نبوت ۱۹۵۳ء“ ص ۷۹ تا ۱۲ مولانا اللہ وسایا)

گلوں نے آ کے مستی میں گریں چاک کر ڈالے
چمن میں ہم نے کچھ غزل خواں یوں بھی دیکھے ہیں

مرزا غلام احمد قادیانی کو الو کا پٹھا کہہ دیا

مشہور مبلغ مولانا محمد لقمان علی پوری نے شیخوپورہ میں تقریر کرتے ہوئے مرزا غلام احمد قادیانی کو الو کا پٹھا کہہ دیا جس پر وہ گرفتار کر لیے گئے۔ جب کیس عدالت میں آیا تو ہمارے وکیل نے مجسٹریٹ سے کہا کہ جناب از روئے شریعت مرزا غلام احمد کافر اور مرتد (واجب القتل) ہے۔ مزید اس نے اپنی کتابوں میں تمام اہل اسلام کو فحش گالیاں دی ہیں۔ اگر ہمارے مبلغ نے جذبات میں آکر الو کا پٹھا کہہ دیا تو یہ معمولی بات ہے۔ مجسٹریٹ نے کہا کہ آپ آئندہ پیشی پر وہ کتابیں پیش کریں جس میں اس نے مسلمانوں کو گالیاں دی ہیں اور کوئی مستند عالم

دین بھی عدالت میں از روئے قرآن و حدیث ثابت کرے کہ مرزا کافر ہے۔ میں نے ملتان مرکزی دفتر مجلس تحفظ ختم نبوت کو لکھا کہ وہ فلاں تاریخ کو مولانا لال حسین اختر کو بمعہ حوالہ جات شیخوپورہ بھیج دیں اور خود حضرت مولانا احمد علی صاحب لاہوری کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا کہ حضرت مقررہ تاریخ پر تشریف لا کر مرزا کو کافر و مرتد ثابت کریں۔ میں کس کارکن کو اس روز بھیج دوں گا۔ آپ اس کے ساتھ تشریف لے آئیں۔ حضرت نے فرمایا ”آدمی بھیجنے کی ضرورت نہیں“ تاریخ مقررہ پر میں خود ہی پہنچ جاؤں گا“ مختصراً تاریخ مقررہ پر حضرت تشریف لائے اور عدالت کی کارروائی کے بعد مولانا سید امین الحق صاحب مرحوم جو جامع مسجد شیخوپورہ کے خطیب تھے، ان کے ساتھ ان کے حجرہ میں آئے۔ انہوں نے چائے وغیرہ کا بندوبست کیا۔ اس وقت حجرہ میں صرف ہم تینوں تھے۔ حضرت لاہوری، مولانا امین الحق صاحب مرحوم اور راقم الحروف۔ مولانا امین الحق حضرت سے مصروف گفتگو تھے اور میں حضرت کے سامنے دو زانو بیٹھا ہوا تھا۔ بار بار میرے جی میں خیال آئے کہ میں سید ہوتے ہوئے بھی اپنے اعمال بد کے ہاتھوں جنمی ہوں اور حضرت نو مسلم کی اولاد ہونے پر بھی اپنے اعمال خیر کے باعث جنتی ہیں۔ گویا ایک جنمی، ایک جنتی کی زیارت کر رہا ہے۔ معاً حضرت مجھ سے مخاطب ہوئے ”نہ بیٹا! نہ نہ بیٹا! نہ اللہ تعالیٰ کسی کو جہنم میں نہیں پھینکنا چاہتے۔ لوگ تو زبردستی جہنم میں کودتے ہیں۔“ میں فوراً سنبھلا اور سوچا کسی نے سچ کہا ہے:

”پادشاہوں کے سامنے آنکھ کی حفاظت کر اور اولیاء اللہ کے سامنے دل کی۔“

(”عجیب و غریب واقعات“ ص ۲۱-۲۲ از سید امین گیلانی)

حضرت مولانا عبدالقادر رائے پوری کا عقیدہ ختم نبوت سے عشق

مولانا محمد علی صاحب فرماتے ہیں:

”مرزاہیت کی نسبت جس قدر متفکر رہتے آپ کو معلوم ہی ہے۔ جب میں حاضر ہوتا“ فرماتے مرزائیوں کا کیا حال ہے۔ اگر کوئی خوشی کی بات بتائی جاتی اکثر فرماتے الحمد للہ، اگر ہنسی والی بات ہوتی تو ایسا ہنستے کہ تمام بدن مبارک متحرک ہو جاتا۔“

ایک دفعہ حاضر ہوا تو ایک نوٹ نکال کر عطا فرمایا کہ ختم نبوت کے کام کی امداد میری

طرف سے۔ پھر مجلس میں حاضرین کو توجہ دلائی۔ سب نے امداد کی۔ حضرت مولانا فضل احمد صاحب نے دس روپیہ کا نوٹ نکال کر دیا۔ فرمایا پانچ روپیہ رکھ لو۔ میں پانچ کا نوٹ واپس کرنے لگا۔ حضرت نے فرمایا ”واپس کیوں لیتے ہو؟ یہ بھی دے دو“ انہوں نے وہ بھی دے دیا۔

اس سلسلہ میں جو لوگ نمایاں حصہ لیتے تھے اور جنہوں نے رات دن ایک کر رکھا تھا، ان سے حضرت کو نہایت محبت تھی اور ان کی نہایت قدر فرماتے تھے اور اپنی محبت و پیار کا اظہار فرماتے۔ مولانا سید عطاء اللہ شاہ بخاری کے بعد مولانا محمد علی جالندھری اس میں پیش پیش تھے۔ حضرت ان سے بڑی محبت و شفقت فرماتے تھے اور ان کا بڑا اکرام کرتے تھے۔ مولانا لکھتے ہیں:

”ایک دفعہ صبح آٹھ بجے کے قریب لائل پور حاضر ہوا۔ زمین کے فرش پر دھوپ میں تشریف فرما تھے۔ آگے ہو کر فرش پر بیٹھنے کا حکم دیا۔ میں تھوڑا آگے ہوا۔ بالکل برابر بٹھا کر کر پر ہاتھ پھیر کر فرمایا ”میرا چاند آیا“۔

میری موجودگی میں جب حضرت والا کی خدمت میں دودھ پیش کیا جاتا تب فرماتے مولوی صاحب کو پلاؤ، میں پی کر کیا کروں گا۔ یہ تو کام کرتے ہیں، خدام اصرار کر کے پلاتے اور کہتے اور دودھ مولوی صاحب کو پلا دیں گے۔ پھر بھی پورا نہ پیتے بلکہ چھوڑ کر فرماتے مولوی صاحب کو پلا دو۔ اس طرح بارہا حضرت کا تبرک ملا۔

مولانا محمد صاحب انوری لکھتے ہیں:

”آخر عمر میں حضرت اقدس کو رد مرزائیت کی طرف بڑی توجہ ہو گئی تھی۔ مولوی محمد حیات صاحب کو (جنہیں قادیانیوں اور لاہوریوں کی کتابیں از بر ہیں) بلا کر مباحث سنتے تھے اور مولوی لال حسین اختر کو بلا بھیجتے تھے۔ مولانا محمد ابراہیم میر صاحب سیالکوٹی کی ”شہادت القرآن“ کو بڑی عزت کی نگاہ سے دیکھتے تھے۔ دوبارہ اس کو طبع کرانے کے بڑے متمنی تھے۔ آخر کار حضرت اقدس نور اللہ مرقدہ کی توجہ مبارک سے اس کی دوبارہ اشاعت ہو گئی اور ایک علمی خزانہ ہاتھ آ گیا۔ علماء جو ادھر ادھر کے مسائل میں الجھے رہتے ہیں، حضرت کو بڑا صدمہ ہوتا تھا۔ ان مباحث میں حضرت نہیں پڑتے تھے بلکہ اہم کام رد مرزائیت کو قرار دیتے تھے۔“

”سوانح حضرت مولانا عبدالقادر لاہوری“ ص ۲۹۵-۲۹۶ از مولانا ابوالحسن ندوی

آبلہ پا کوئی اس دشت میں آیا ہوگا
ورنہ آندھی میں دیا کس نے جلایا ہوگا

اے مسلمان! یہ وہ عظیم لوگ تھے جن کی زندگی کا ہر ہر سانس تحفظ ختم نبوت کے لیے وقف تھا۔ جنہوں نے زندگی کی ساری بہاریں ناموس رسول کی حفاظت کے لیے وقف کر رکھی تھیں۔ جو قادیانیت کے منہ زور سیلاب کو روکنے کے لیے ہمالیہ بن گئے۔ جنہوں نے اس جہادی راستے کے سارے کانٹوں کو پھول سمجھ کر سینوں سے لگایا۔ جنہوں نے گھر کی راحت بخش زندگی پر جیل کی زندگی کو ترجیح دی۔ جن کے پر عزم قدموں کو مال اور اولاد کی زنجیریں راہ قربانی سے نہ روک سکیں۔

لیکن۔۔۔ اے مسلمان! آج قادیانی ڈش انڈینا کے زبردست ہتھیار سے مسلح ہو کر ہوا کی لہروں کے ذریعے ارتداد کی تبلیغ کر رہا ہے۔ وائس آف اسلام کے نام سے ریڈیو سٹیشن کا ہولناک منصوبہ تیار ہو چکا ہے۔ قادیانی روزنامے چھپ رہے ہیں۔ دنیا کی مختلف زبانوں میں قرآن و حدیث کے دجل و فریب پر جنی تراجم پھیلانے جا رہے ہیں۔۔۔ درجنوں قادیانی ماہنامے اور ہفت روزے شائع ہو رہے ہیں۔۔۔ ہزاروں قادیانی مبلغین مرزا قادیانی کی جعلی نبوت کا زہر ملت اسلامیہ کی رگوں میں گھول رہے ہیں۔ لیکن۔۔۔ ہم غفلت و بے حیائی کی چادر اوڑھے مردوں سے شرط باندھ کر سو رہے ہیں۔ ہمارا دکاندار کہتا ہے، میں دکانداری میں مصروف ہوں۔۔۔ زمیندار کہتا ہے، میں زمینداری میں مصروف ہوں۔۔۔ ملازم کہتا ہے، مجھے ملازمت سے فرمت نہیں۔۔۔ طلبا کہتے ہیں، ہم حصول تعلیم میں مشغول ہیں۔۔۔ ڈاکٹر اور انجینئر کہتے ہیں، ہمارے پاس وقت نہیں۔۔۔ دکلا کہتے ہیں، ہم اپنے دھندوں میں پھنسے ہوئے ہیں۔۔۔ صحافی اس عظیم کام کی طرف توجہ نہیں دیتے۔۔۔ عورتیں اپنے مشاغل میں مست ہیں۔۔۔ تو۔۔۔ اے مسلمان! پھر ناموس رسول کی حفاظت کون کرے گا؟
تاج و تخت ختم نبوت کی چوکیداری کون کرے گا؟
قادیانیوں کے ظالم ہاتھوں سے اسلام کو قطع و برید سے کون بچائے گا؟

ارتداد کے بدست ہاتھی کو زنجیر کون پہنائے گا؟

کیا جانے یہ کیا کھوئے گا، کیا جانے یہ کیا پائے گا
مندر میں پجاری جاگتا ہے، مسجد کا نمازی سوتا ہے

اے مسلمان! اگر ہم نے ناموس رسولؐ کی پرواہ نہ کی تو پھر اللہ تعالیٰ کو بھی ہماری عزتوں
کی کوئی پرواہ نہ ہوگی۔۔۔ جو شخص محمدؐ رسول اللہ کی ذات اقدس پہ غیرت نہیں کھاتا، اللہ کو
بھی اس پہ غیرت نہیں آتی۔۔۔ کیونکہ جس کا محمدؐ رسول اللہ سے تعلق نہیں، اس کا اللہ سے
بھی کوئی تعلق نہیں۔

کی محمدؐ سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں
یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں



مرزا قادیانی کا حافظہ

عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت
ننکانہ صاحب
ضلع شیخوپورہ

اور مصطفیٰ میں کوئی تفریق پکڑتا ہے، اس نے مجھ کو نہیں دیکھا ہے اور نہیں پہچانتا ہے۔“
(نعوذ باللہ) ("خطبہ الہامیہ" ص ۱۷۱، مصنفہ مرزا قادیانی)

○ مرزا قادیانی کو حضور پاکؐ نہ ماننا قرآن کی مخالفت ہے: "اور جس نے مسیح موعود کی بعثت کو نبی اکرم کی بعثت ثانی نہ جانا، اس نے قرآن کو پس پشت ڈال دیا۔ کیونکہ قرآن پکار پکار کر کہہ رہا ہے کہ محمد رسول اللہ ایک دفعہ پھر دنیا میں آئے گا۔" ("کلمتہ الفصل" مصنفہ مرزا بشیر احمد قادیانی، ابن مرزا قادیانی، مندرجہ رسالہ "ریویو آف ریلیجنز" قادیان، ص ۱۰۵، نمبر ۳، جلد ۱۳)

○ مرزا قادیانی نام، کام اور مقام کے لحاظ سے عین محمدؐ ہے: "مسیح موعود در حقیقت محمد اور عین محمد ہیں اور آپ میں اور آنحضرت صلعم میں باعتبار نام، کام اور مقام کے کوئی دوئی یا مفارقت نہیں۔" (نعوذ باللہ) (اخبار "الفضل" قادیان، جلد ۳، نمبر ۷، مورخہ کیم جنوری ۱۹۲۶ء)

○ ہر شخص ترقی کر کے حضور پاکؐ سے بڑھ سکتا ہے: "یہ بالکل صحیح بات ہے کہ ہر شخص ترقی کر سکتا ہے اور بڑے سے بڑا درجہ پاسکتا ہے۔ حتیٰ کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بھی بڑھ سکتا ہے۔" (نعوذ باللہ) (اخبار "الفضل" ۱۷ جولائی ۱۹۲۲ء)

○ مرزا قادیانی کی حضور پاکؐ پر فضیلت (نعوذ باللہ): "آسمان سے کئی تخت اترے مگر تیرا تخت سب سے اونچا بچھایا گیا۔" (نعوذ باللہ) ("مرزا قادیانی کا الہام" مندرجہ "تذکرہ" ص ۳۲۶)

○ مرزا قادیانی حضور پاکؐ سے زیادہ اکمل ہے (نعوذ باللہ):

محمد پھر اتر آئے ہیں ہم میں اور آگے سے بڑھ کر ہیں اپنی شان میں
محمد دیکھنے ہوں جس نے اکمل غلام احمد کو دیکھے قادیان میں

(اخبار "بدر" قادیان، ۲۵ اکتوبر ۱۹۰۶ء، بحوالہ "قادیانی مذہب" ص ۳۳۶)

○ مرزا قادیانی کی روحانیت حضور پاکؐ سے زیادہ تھسی (نعوذ باللہ):

”ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روحانیت نے پانچویں ہزار میں (یعنی پہلی بعثت میں) اجمالی صفات کے ساتھ ظہور فرمایا اور وہ زمانہ ایسی روحانیت کی ترقیات کا انتہا نہ تھا، بلکہ اس کے کمالات کے معراج کے لئے پہلا قدم تھا۔ پھر اس روحانیت نے چھٹے ہزار کے آخر میں یعنی اس وقت پوری طرح سے تجلی فرمائی۔“ (نعوذ باللہ) (خطبہ الہامیہ ”ص ۷۷، مصنفہ مرزا قادیانی)

○ مرزا قادیانی کا ذہنی ارتقاء حضور پاکؐ سے زیادہ تھا (نعوذ باللہ):

”حضرت مسیح موعود (مرزا قادیانی) کا ذہنی ارتقاء آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے زیادہ تھا۔۔۔۔۔ اور یہ جزوی فضیلت ہے جو حضرت مسیح موعود (مرزا قادیانی) کو آنحضرت صلعم پر حاصل ہے۔ نبی کریم کی ذہنی استعدادوں کا پورا ظہور بوجہ تمدن کے نقص کے نہ ہوا اور نہ قابلیت تھی۔ اب تمدن کی ترقی سے حضرت مسیح موعود کے ذریعہ ان کا پورا ظہور ہوا۔“ (نعوذ باللہ) (”ریویو“ مئی ۱۹۲۹ء، بحوالہ ”قادیانی مذہب“ ص ۲۶۶، اشاعت نہم، مطبوعہ لاہور)

یہ خوفناک اور روح فرسا تحریریں کیوں تیار کی گئیں؟

کفر کو ان کی ضرورت کیوں پیش آئی؟

○ اس لئے کہ مرزا قادیانی کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جگہ لایا جائے۔ (نعوذ باللہ)

○ مرزا قادیانی کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک ترقی یافتہ صورت قرار دیا جائے۔ (نعوذ باللہ)

○ محمدی نبوت ختم کر کے امت مسلمہ کے سامنے قادیانی نبوت لائی جائے۔ (نعوذ باللہ)

○ جناب سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فارغ کر کے مرزا قادیانی کو تخت نبوت پر بٹھایا جائے۔ (نعوذ باللہ)

○ ہر شخص کو یہ شہ دی جائے کہ محنت و جدوجہد کر کے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے آگے بڑھا جاسکتا ہے۔ اس کے دل سے عظمت نبوت محمدی ختم

قسم پوری کر لی۔۔۔ (”وفیات الاعیان لابن خلکان“ ج ۵، ص ۳۱)

○ - ”بھیرہ ابن ورید لغت عربی میں بڑی مبسوط کتاب ہے۔ جس کو چار جلدوں میں ”دائرة المعارف“ حیدرآباد نے شائع کیا ہے۔ ایک شخص ابن مینین کو لغت کی یہ ساری جلدیں حفظ تھیں۔“ (”وفیات“ ج ۴، ص ۲۶)

○ - علامہ ابو بکر ابن الانباری کے متعلق علامہ ابو علی قالی کا بیان ہے کہ انہیں تین لاکھ اشعار عرب کے جو سب کے سب قرآن مجید کے الفاظ کے شواہد ہیں، ازبر تھے۔ اور سنئے فرماتے ہیں کہ ”مجھے تیرہ صندوق کتابیں یاد ہیں اور قرآن مجید کی ایک سو بیس تفسیریں مع سندوں کے یاد ہیں۔“ (”وفیات الاعیان“ ج ۳، ص ۴۶۴) ”الاحمد فی تراجم اصحاب احمد“ ج ۲، ص ۱۹)

○ - ”علامہ مصری یحییٰ بن یوسف بن یحییٰ المرصی متوفی ۶۵۶ھ بغداد کے رہنے والے تھے۔ سرور عالم، فخر آدم و بنی آدم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدح میں بلا مبالغہ اتنے قصائد تحریر فرمائے ہیں کہ ان کا مجموعہ بیس جلدوں تک پہنچتا ہے۔ اس کے علاوہ اشعار عرب اور ادب کے ماہرین میں ان کی ذات منتہا مانی جاتی تھی۔ قصائد مدحیہ کی وجہ سے حسان وقت شمار کئے جاتے تھے۔ سب سے عجب بات یہ ہے کہ صحاح فی اللغۃ جوہری کو تمام و کمال حفظ کیا تھا۔“ (”شذرات الذہب“ ج ۵، ص ۲۸۶)

صحاح لغت کی بہت بڑی مشہور اور قدیم کتاب ہے۔

○ - ”علامہ میر عبد الجلیل بلرامی رحمۃ اللہ علیہ متوفی ۱۱۳۸ھ کے حافظہ کا یہ عالم تھا کہ انہیں لغت کی مشہور اور ضخیم کتاب ”قاموس“ اول تا آخر ازبر تھی۔“ (”ماثر الکرام“ ج ۲، ص ۲۵۳)

○ - علامہ محمد بن یوسف بدر الدین البہنی مغربی مراکش متوفی ۱۱۳۵ھ کے متعلق علامہ زرکلی صاحب الاعلام فرماتے ہیں: ”بخاری شریف اور مسلم شریف کو مع احادیث کے سندوں کے ساتھ حفظ فرمایا بلکہ بیس ہزار بیت مختلف علوم و فنون کے بھی ازبر تھے۔“ (”الاعلام“ ص ۳۳)

○ - مشہور مورخ الشیخ قطب الیومینی اپنے والد بزرگوار الامام العلامہ شیخ الاسلام

محمد بن ابی الحسین بوینی المتوفی ۶۵۸ھ کے متعلق فرماتے ہیں: ”میرے والد نے کتاب الجمع بین الصیغین (یعنی وہ کتاب جس میں بخاری و مسلم کی حدیثیں یکجا کی گئی ہوں) اور مسند امام احمد بن حنبل کا بڑا حصہ زبانی یاد فرمایا تھا۔ مسلم شریف کو صرف چار ماہ میں یاد فرمایا تھا اور سورۃ انعام ایک دن میں اور حریری کے تین مقامات کو چند گھنٹوں میں ازبر کر لیا تھا۔“ (شذرات الذہب ج ۵، ص ۲۹۳)

○ علامہ شیخ عبدالوہاب حنفی برہان پوری کے متعلق ان کے شاگرد رشید شیخ عبدالحق محدث دہلوی فرماتے ہیں کہ ہمارے شیخ ”قاموس“ کے حافظ تھے۔ ان کے حافظ کے بارے میں لکھا ہے کہ جو شاگرد جس ملک کا ہوتا، اس کو اسی کی زبان میں سبق سمجھاتے۔“ (اسلاف کے حیرت انگیز واقعات ص ۹۶، حکیم محمد یوسف ہاشمی)

○ ”شیخ عزیز الدین بن جماعۃ الشافعی المتوفی ۸۱۹ھ نے قرآن مجید کو ایک ماہ میں حفظ کر لیا۔“ (شذرات الذہب ج ۲، ص ۱۳۹)

○ ”ہندوستان کے درویش صفت بادشاہ حضرت اورنگ زیب عالمگیر بارہ ہزار احادیث کے حافظ تھے۔“ (”وعظ ضرورت العلماء“ ص ۲۹۰، از مولانا تھانوی)

○ حضرت مولانا فرخ شاہ سرہندی کے حافظ کے متعلق مولانا محسن بن یحییٰ تریہتی، الیانغ الجہنی میں تحریر فرماتے ہیں:

”ستر ہزار احادیث کو مع اس کے اسناد کے نیز مع راویوں کے جرح و تعدیل کے یاد کیا تھا اور احکام فقہ میں درجہ اجتہاد حاصل ہو گیا تھا۔“ (”نزیہ الخواطر“ ص ۲۲۲، ج ۶)

○ ”حضرت مولانا سید احمد شہید تیس ہزار حدیثوں کے حافظ تھے۔“ (”ذخیرہ کرامت“ حصہ دوم، ص ۱۹۳)

○ ”فخر المحدثین حضرت مولانا لور شاہ صاحب کشمیری کا حافظ اتنا قوی تھا کہ آپ جس کتاب کو ایک دفعہ پڑھ لیتے، بیس سال تک یاد رہتی۔“ (اسلاف کے حیرت انگیز کارنامے ص ۱۳۳، مولانا حکیم محمد یوسف ہاشمی)

○ ”حضرت الشیخ عبدالغنی الحافظ مقدسی ۶۰۰ھ کے حافظ کے متعلق آتا ہے کہ

ایک شخص نے شیخ کے روہو ذکر کیا کہ ایک آدمی نے قسم کھالی ہے کہ اگر حافظ عبدالغنی مقدسی ایک لاکھ حدیثوں کے حافظ نہ ہوں تو میری بیوی کو طلاق۔ شیخ نے سن کر فرمایا کہ اگر اس سے زیادہ کے بارے میں قسم کھاتا تو حادثہ نہ ہوتا۔ ("ذہبی" جلد ۴، ص ۱۳۷۵)

○ - "حضرت شیخ احمد فیاض بہت بڑے عالم تھے۔ بدھاپے میں بستر عیال پر پڑے تھے کہ انہیں حفظ قرآن کا شوق اٹھا اور بیماری کی حالت میں بستر پر پڑے پڑے ایک سال میں قرآن مجید حفظ کر لیا۔" ("اسلاف کے حیرت انگیز واقعات" ص ۲۰۳، مولانا حکیم محمد یوسف ہاشمی)

○ - "حضرت مولانا فضل حق خیر آبادی نے صرف چار ماہ میں قرآن مجید حفظ فرما لیا۔" ("اسلاف کے حیرت انگیز کارنامے" ص ۲۰۵، مولانا حکیم محمد یوسف ہاشمی)

○ - "حضرت روح اللہ لاہوری (۱۲۳۳ھ) جب مکہ معظمہ تشریف لے گئے تو ماہ رمضان المبارک کے بیس دنوں میں پورا قرآن مجید حفظ کر لیا۔" ("اسلاف کے حیرت انگیز کارنامے" ص ۲۰۶، حکیم مولانا محمد یوسف ہاشمی)

○ - "حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی جب حج کے لئے تشریف لے جا رہے تھے تو سمندر میں جہاز پر رمضان شریف کا چاند دیکھا گیا۔ رنقاء کی خواہش ہوئی کہ تراویح پڑھی جائے مگر اتفاق سے کوئی بھی حافظ قرآن نہ تھا۔ خود مولانا بھی حافظ نہ تھے مگر لوگوں کے اصرار پر ایک پارہ روزانہ حفظ فرماتے اور رات کو تراویح میں سنا دیا کرتے تھے۔ اس طرح پورا قرآن یاد کر کے سنا دیا۔" ("سوانح قاسمی" مرتبہ مولانا محمد یعقوب صاحب نانوتوی)

○ - "علامہ جلال الدین سیوطی کے حافظ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ کو دو لاکھ احادیث یاد تھیں۔" ("اسلاف کے حیرت انگیز کارنامے" ص ۲۲۶، مولانا حکیم محمد یوسف ہاشمی)

○ - "مولانا سید احمد شہید جب حج بیت اللہ کے لئے تشریف لے گئے، دوران سفر مولانا سید احمد شہید کی ملاقات ایک عالم سید محمد ثانی سے ہوئی جن کو صحیح معنی میں اس کی شرح

قسطلاتنی کے حفظ تھی۔“ (سیرت سید احمد شہید، ص ۲۳۲، از مولانا غلام رسول مر)

○ - ”علامہ ابن الانباری کے حافظہ کا یہ عالم تھا کہ انہیں الفاظ قرآن کے استہتار میں عرب کے تین لاکھ اشعار حفظ تھے۔ ایک سو بیس تفاسیر سندوں کے ساتھ یاد کی تھیں۔ علامہ سیوطی نے .خیتہ الوعاة میں ان کا تذکرہ کرتے ہوئے لکھا ہے کہ ایک دن بیمار ہوئے تو ان کے والد بڑے پریشان ہوئے۔ لوگوں نے تسلی دینا چاہی کتابوں سے بھری ہوئی الماری کی طرف اشارہ کر کے کہنے لگے میں اس بیٹے کی بیماری پر پریشان کیوں نہ ہوں۔ جس کو یہ سب کتابیں حفظ ہیں۔“ (متاع وقت اور کاروان علم“ ص ۱۵۳، ابن الحسن عباسی)

○ - ”حضرت مولانا سلیم اللہ خان نے صرف ستائیس دنوں میں قرآن پاک حفظ کیا۔“ (متاع وقت اور کاروان علم“ ص ۲۳۷، از ابن الحسن عباسی)

○ - ابن خلکان کا بیان ہے کہ ملک معظم عیسیٰ سلطان شام ابن الملک العادل الایوبی فقیہ فقہ حنفی متوفی ۶۲۳ھ نے فقہائے احناف کو یہ حکم دیا کہ مذہب امام ابوحنیفہ کو ترتیب دیں اور یہ ترتیب اس طرح ہو کہ اس میں صاحبین کے اقوال نہ ہوں۔ فقہاء نے بادشاہ کے حکم کی تعمیل کی اور ایسے تمام مسائل کو ایک کتاب میں تحریر کر دیا جو دس جلدوں میں مکمل ہوئی۔

اس کتاب کا نام ”تذکرہ فی القروع علی مذہب ابی حنیفہ“ تجویز کیا۔ بادشاہ نے وہ کتاب بہت پسند کی اور سفرو حضر میں ہمہ وقت اپنے پاس رکھتا اور برابر اس کا مطالعہ کیا کرتا اور ہر جلد کے اوپر یہ لکھ دیا کرتا تھا کہ عیسیٰ نے اس کو زبانی یاد کیا ہے۔ لوگوں کو بہت تعجب ہوا کہ یہ کیوں ممکن ہے۔

لوگوں نے پوچھا کہ آپ امور مملکت میں منہمک رہتے ہیں تو کس طرح یاد کر لی یہ کتاب؟

بادشاہ نے کہا، الفاظ کا کیا اعتبار؟ آؤ بسم اللہ کرو اور اس کے تمام مسائل مجھ سے پوچھ لو۔ اس سے بادشاہ کے حفظ کامل کا پتہ چلتا ہے۔ (کشف المنون، ج ۱، ص ۲۱۳ بحوالہ ”اسلاف کے حیرت انگیز کارنامے“ ص ۲۸۰، حکیم محمد یوسف ہاشمی)

○ - "ابراہیم ابن سعید فرماتے ہیں کہ خلیفہ مامون کے دربار میں چار سال کا ایک بچہ لایا گیا جس نے قرآن مجید پڑھ لیا تھا۔ مسائل شرعی سے بھی واقف تھا مگر جب بھوکا ہوتا تو بچوں کی طرح رونے لگتا۔ یعنی بچوں کا خاصہ موجود تھا۔

○ - قاضی ابو عبد اللہ بن محمد اصبہانی نے فرمایا کہ میں نے پانچ سال کی عمر میں قرآن حفظ کر لیا تھا۔ جب چار سال کا تھا تو سماعت حدیث کے لئے ابو بکر بن المتمری کے پاس لے جایا گیا۔ تو بعض لوگوں نے فرمایا کہ سورہ کافرون سناؤ تو میں نے سنا دی۔ پھر سورہ کوثر سنانے کی فرمائش کی تو اس کو بھی سنا دیا۔

حاضرین میں سے کسی نے سورہ مراسلات پڑھنے کی فرمائش کی۔ میں نے فر فرنا دی اور کہیں بھی غلطی نہیں کی۔ محدث ابن المتمری نے فرمایا کہ ان سے حدیث سننے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ میں اس کا ذمہ دار ہوں۔ ("مقدمہ ابن صلاح" ص ۳۳، بحوالہ "اسلاف کے حیرت انگیز کارنامے" ص ۲۰۲، حکیم محمد یوسف ہاشمی)

○ - حافظ رحمت اللہ الہ آبادی کے حافظہ کے متعلق حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے بیان فرمایا ہے:

"قاضی وصی الدین صاحب کانپور میں قرق امین تھے اور نہایت ثقہ اور متعدد معتبر آدمی تھے۔ گو جنید بغدادی نہ ہوں لیکن تاہم ایک ثقہ اور معزز آدمی تھے اور جو لوگ معزز ہوتے ہیں وہ عادتاً جھوٹ نہیں بولتے ہیں۔"

وہ کہتے تھے کہ ایک مرتبہ حافظ صاحب کانپور تشریف لائے اور میں نے درخواست کی کہ آپ کا حافظہ دیکھنا چاہتا ہوں۔ فرمایا کہ کوئی کتاب لا کر طویل عبارت کی میرے سامنے پڑھ دو۔

وہ کہتے ہیں کہ میں کتب خانہ میں سے "اتق المبین" نکال لایا جو بہت باریک لکھی ہوئی تھی اور بڑی تقطیع پر تھی اور اس کے دو صفحے ان کے سامنے پڑھے۔ انہوں نے بیینہ تمام عبارت سنا دی۔ (مجموعہ، ص ۳۱، طبع ملتان، بحوالہ "اسلاف کے حیرت انگیز کارنامے، حکیم محمد یوسف ہاشمی)

○ - امام بخاری کا اس غضب کا حافظہ تھا کہ استادوں کے ساتھ محض حدیث سن

کریا د کر لیا کرتے جب کہ دوسرے ہم سن بغیر لکھے ہوئے یاد نہ رکھ سکتے تھے۔ ایک نو عمر بچہ کا یہ فعل ہم عمروں کے لئے تعجب کا باعث ہوا۔ آخر کار لوگوں سے نہ رہا گیا اور چھیڑ دیا۔ میاں بچے لکھتے نہیں تو پھر کس طرح یاد کرو گے۔ امام نے فرمایا تم کئی بار ٹوک چکے ہو۔ لاؤ اپنا لکھا ہوا ذخیرہ۔ لایا گیا جو پندرہ ہزار حدیثوں پر مشتمل تھا۔ آپ نے سب کا سب فر فر سنا دیا۔ اس کے بعد فرمایا میں یونہی اپنا وقت ضائع نہیں کر رہا ہوں۔ اسی وقت لوگوں نے فیصلہ کر لیا کہ اس شخص سے کوئی آگے نہیں بڑھ سکتا۔

(”تذکرہ“ ص ۲۵۶)

○ - بچپن ہی کا قصہ ہے کہ سلیم ابن مجاہد فرماتے ہیں کہ میں محمد ابن سلام یسکندی کے پاس پہنچا تو فرمانے لگے کہ کچھ پہلے آئے ہوتے تو ایک بچے سے ملاقات ہو جاتی۔ ستر ہزار احادیث کا حافظ ہے۔ مجھے بڑا تعجب معلوم ہوا اور میں ان کی تلاش میں نکلا۔ چنانچہ ملاقات ہو گئی۔

میں نے پوچھا تم ستر ہزار احادیث کے حافظ ہو؟ فرمانے لگے جی ہاں! بلکہ اس سے بھی زیادہ کا حافظ ہوں۔ صرف اتنا ہی نہیں بلکہ راویان حدیث صحابہ و تابعین کے سن پیدائش و وفات و جائے سکونت بھی بتا سکتا ہوں۔ (”طبقات الشافعیۃ الکبریٰ“ ج ۲، ص ۵)

○ - آپ کی بے مثل و بے نظیر قوت حافظہ کا مظاہرہ بھی کئی بار ہوا۔ ایک بار آپ بغداد تشریف لے گئے۔ وہاں علماء و محدثین کو معلوم ہو گیا کہ یہ شخص لاکھوں احادیث کے حافظ ہونے کا دعویٰ کرتا ہے تو آپس میں ایک مجلس منعقد کرنے کی تجویز ہوئی، جس میں امام بخاریؒ کا امتحان لینا طے ہوا۔ دس آدمی منتخب ہوئے اور دس دس حدیثیں سند اور متن میں گڑ بڑ کرنے کی تجویز ہوئی۔ چنانچہ مجلس امتحانی منعقد ہوئی اور امام کے سامنے پہلے ایک شخص نے ایک حدیث کا حلیہ بری طرح بگاڑ کر پیش کیا۔ امام نے فرمایا لا اعرفہ یعنی یہ حدیث اس طرح مجھے نہیں پہنچی۔ اسی طرح دسوں حدیثیں پڑھ دی گئیں اور ہر حدیث کے بعد امام اپنا جملہ لا اعرفہ دہراتے رہے۔ پھر دوسرے صاحب کمرے ہوئے اور اسی طرح دس حدیثیں بگاڑ کر پڑھیں۔ یہاں تک کہ دس آدمیوں نے

سو حدیثیں پڑھیں اور امام ہر حدیث سننے کے بعد وہی جملہ دہراتے رہے۔ پھر آپ گویا ہوئے اور پہلے آدمی کی طرف مخاطب ہو کر فرمایا کہ آپ نے پہلی حدیث اس طرح پڑھی تھی حالانکہ وہ اس طرح ہے۔ اس کو مفصل بیان فرمایا۔ پھر دوسری اور تیسری، چوتھی وغیرہ پر تبصرہ فرمایا۔ یہاں تک کہ پوری سو احادیث کو بالترتیب درست طریقہ پر سنا دیا۔ حاضرین مجلس ان کے استحضار ذہن، ذکاوت اور قوت حافظہ کے معترف ہو گئے۔ (”الہدی الساری“ مقدمہ ”فتح الباری“ ج ۶، ص ۲۰۰)

○ کمال محمد بن حمدویہ سے خود فرمانے لگے کہ مجھے ایک لاکھ احادیث صحیحہ و دو لاکھ احادیث غیر صحیحہ حفظ ہیں۔ (”الہدی الساری“)

○ ”مولانا احمد رضا خان بریلوی کے حافظہ کی یہ کیفیت تھی کہ انہوں نے صرف ایک ماہ میں قرآن پاک حفظ کیا۔“ (روزنامہ ”نوائے وقت“ ۱۸ جولائی ۱۹۹۵ء)

لیجئے اب قادیانی نبی مرزا قادیانی کی ذہنی استعداد اور قوت حافظہ ملاحظہ فرمائیے۔
گر گلابی: ”ایک دفعہ کوئی شخص آپ کے لیے گر گلابی لے آیا۔ آپ نے پہن لی مگر اس کے اٹنے سیدھے پاؤں کا آپ کو پتہ نہیں لگتا تھا۔ کئی دفعہ الٹی پہن لیتے تھے اور پھر تکلیف ہوتی تھی۔ بعض دفعہ آپ کا الٹا پاؤں پڑ جاتا تو تنگ ہو کر فرماتے ان کی کوئی چیز بھی اچھی نہیں ہے۔ والدہ صاحبہ نے فرمایا کہ میں نے آپ کی سہولت کے واسطے الٹے سیدھے پاؤں کی شناخت کے لیے نشان لگا دیے تھے مگر باوجود اس کے آپ الٹا سیدھا پہن لیتے تھے۔“ (سیرت الہدی، حصہ اول، ص ۶۷، مصنفہ مرزا بشیر احمد قادیانی، ابن مرزا قادیانی)

جب ذہن الٹا سیدھا ہو تو پھر الٹے سیدھے کی پہچان کیسے ہو؟ (مولف)
جوئی کی دوات: ”ایک مرتبہ فرمانے لگے میرے لیے کسی نے بوٹ بھیجے ہیں۔ میری سمجھ میں اس کا دایاں بایاں نہیں آتا۔ آخر اس کو سیاہی ڈالنے کے لیے بنا لیا۔“ (الحکم، ۱۲ دسمبر ۱۹۳۲ء ص ۵، کالم نمبر ۲)

قادیانیو! اسے پڑھ کر بھی مرزا قادیانی کو نبی مانتے ہو۔ خدا کو کیا جواب دو گے؟ (مولف)

چابی: ”شیخ صاحب نے عرض کیا حضور گھڑی تو اچھی چلتی ہے۔ آپ نے ایک رومال کو فرش پر رکھ کر اور ایک دو گانٹھیں کھول کر اس میں سے گھڑی نکالی۔ معلوم ہوا کہ بند ہے۔ چابی دی گئی۔ وقت درست کیا گیا۔ مولوی محمد علی صاحب نے آہستہ سے کہا اب جس دن پھر آؤ گے، چابی دے دینا۔“ (یاد ایام، از قاضی محمد ظہور الدین قادیانی، مندرجہ اخبار الحکم قادیانی)

کسے؟ گھڑی کو یا مرزا قادیانی کو؟ (مولف)

لنگتی جرابیں: ”زیادہ سردی میں دو دو جرابیں اوپر نیچے چڑھا لیتے۔ مگر بارہا جراب اس طرح پن لیتے کہ وہ پیر پر ٹھیک نہ چڑھتیں۔ کبھی تو سر آگے لٹکتا رہتا اور کبھی جراب کی ایڑی کی جگہ پیر کی پشت پر آ جاتی۔ کبھی ایک جراب سیدھی دوسری الٹی۔“ (سیرت المہدی، حصہ دوم، ص ۳۷، مصنفہ مرزا بشیر احمد قادیانی، ابن مرزا قادیانی)

قادیانیو! اسے پڑھ کر ہی توبہ کر لو۔ (مولف)

ڈاکٹر میر محمد اسماعیل صاحب نے مجھ سے بیان کیا کہ ایک دفعہ مسجد مبارک میں نماز ظہر یا عصر شروع ہو چکی تھی کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام درمیان میں سے نماز توڑ کر کھڑکی کے راستہ گھر میں تشریف لے گئے اور پھر وضو کر کے نماز میں آئے اور جو حصہ نماز کا رہ گیا تھا، وہ امام کے سلام پھیرنے کے بعد پورا کیا۔ یہ معلوم نہیں کہ حضور بھول کر بے وضو آ گئے تھے، یا رفع حاجت کے لئے گئے تھے۔“ (سیرت المہدی، ”حصہ سوم“ ص ۲۶، مصنفہ مرزا بشیر احمد قادیانی، ابن مرزا قادیانی)

بے وضو آ گیا ہو گا یا بیگم نے آواز دی ہوگی۔ کیونکہ مسٹر قادیانی بیگم سے بہت ڈرتا تھا۔ (مولف)

جیب کی اینٹ: ”آپ کے ایک بچے نے آپ کی واسکٹ کی جیب میں ایک بڑی اینٹ (روڑا) ڈال دی۔ آپ جب لیٹتے تو وہ چھپتی۔ کئی دنوں تک ایسا رہا۔ ایک دن آپ ایک خادم کو کہنے لگے کہ میری طبیعت خراب ہے اور پہلی میں درد ہے۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ کوئی چیز چھپتی ہے۔ وہ حیران ہوا اور آپ کے جسم پر ہاتھ پھیرنے لگا۔ اس کا ہاتھ اینٹ پر جا لگا۔ جیب سے اینٹ نکال لی۔ دیکھ کر مسکرائے اور فرمایا کہ چند روز ہوئے

محمود نے میری جیب میں ڈالی تھی اور کہا تھا کہ اسے نکالنا نہیں۔ میں اس سے کھیلوں گا۔ (حضرت مسیح کے مختصر حالات "ملحقہ" براہین احمدیہ "طبع چہارم" ص ۱۳)

مرزا یو! اسے پڑھو اور توبہ کر لو۔ ابھی وقت ہے، ابھی سہلت ہے۔ (ناقل)

تیل: "ڈاکٹر میر محمد اسماعیل صاحب نے مجھ سے بیان کیا کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی اولاد میں آپ کی لڑکی عصمت ہی صرف ایسی تھی جو قادیان سے باہر پیدا ہوئی اور باہر ہی فوت ہوئی۔ اس کی پیدائش انبالہ چھاؤنی کی تھی اور فوت وہ لدھیانہ میں ہوئی۔ اسے ہیضہ ہوا تھا۔ اس لڑکی کو شربت پینے کی عادت پڑ گئی تھی۔ یعنی وہ شربت کو پسند کرتی تھی۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام اس کے لئے شربت کی بوتل ہمیشہ اپنے پاس رکھا کرتے تھے۔ رات کو وہ اٹھتی تو کستی ابا شربت پینا ہے۔ آپ فوراً اٹھ کر شربت بنا کر اسے پلا دیا کرتے تھے۔ ایک روز لدھیانہ میں اس نے اسی طرح رات کو اٹھ کر شربت مانگا۔ حضرت صاحب نے اسے شربت کی جگہ چینیلی کا تیل پلا دیا، جس کی بوتل اتفاقاً شربت کی بوتل کے پاس ہی پڑی ہوئی تھی۔" ("سیرت المہدی" حصہ سوم، ص ۵۹، مصنفہ مرزا بشیر احمد قادیانی)

ہر قادیانی کے ساتھ ایسا ہی ہو رہا ہے۔ (مولف)

جوتے کی تلاش: "ایک مرتبہ آپ کا جوتا عجیب طرز سے گم ہوا جو ایک لطیفہ سے کم نہیں۔ دراصل آپ کے استغراق الی اللہ کی ایک مثال ہے۔ سردی کا موسم تھا۔ آپ نے چڑے کے موزے پہنے ہوئے تھے۔ رات کو سونے لگے تو پاؤں سے جوتا نکالا۔ ایک جوتا تو نکل گیا، دوسرا پاؤں ہی میں رہا اور اس جوتے سمیت ہی تھوڑا بہت حصہ رات کا جو سوتے تھے، سوئے رہے۔ اٹھے تو جوتے کی تلاش۔ ادھر ادھر دیکھا تو پتہ نہیں چلتا۔ ایک پاؤں موجود تھا اور یہ خیال بھی نہ آیا کہ پاؤں میں رہ گیا ہوگا۔ خادم نے کہا شاید کتالے گیا ہوگا۔ اس خیال سے وہ ادھر ادھر دیکھنے بھالنے لگے۔ تھوڑی دیر بعد جو اتفاقاً پاؤں پر ہاتھ لگا تو معلوم ہوا کہ اوہو! وہ تو پاؤں میں ہی پھنسا ہوا ہے اور ہم خیال کرتے رہے کہ صرف جراب ہی ہے۔ خیر خادم کو آواز دی "جو تامل گیا، پاؤں ہی میں رہ گیا تھا۔"

("حیات النبی" جلد ۱-۲، ص ۱۹۱، مصنفہ شیخ یعقوب علی تراب)

وہی جو تا سر پر برسایا جاتا تو شاید دائمی خلل درست ہو جاتا۔ (مولف)

○ **راکھ:** ”بیان کیا مجھ سے والدہ صاحبہ نے کہ بعض بوڑھی عورتوں نے مجھ سے بیان کیا کہ ایک دفعہ بچپن میں حضرت صاحب نے اپنی والدہ سے روٹی کے ساتھ کچھ کھانے کو مانگا۔ انہوں نے کوئی چیز شاید گڑ بتایا کہ یہ لے لو۔ حضرت نے کہا نہیں یہ میں نہیں لیتا۔ انہوں نے کوئی اور چیز بتائی حضرت صاحب نے اس پر بھی جواب دیا۔ وہ اس وقت کسی بات پر چڑھی ہوئی بیٹھی تھیں۔ سختی سے کہنے لگیں کہ جاؤ پھر راکھ سے کھا لو۔ حضرت صاحب روٹی پر راکھ ڈال کر بیٹھ گئے اور گھر میں ایک لطفہ ہو گیا۔“ (سیرت المہدی، ص ۳۳۵، حصہ اول، مصنفہ مرزا بشیر احمد ابن مرزا قادیانی)

اور جو اسے نبی مانتے ہیں وہ بھی سر پہ راکھ ڈال کر بیٹھے ہوئے ہیں (مولف)

○ **دایاں بایاں:** ”بعض اوقات کوئی دوست حضور کے لیے گرگاہی (جوتا) ہدیت لاتا تو آپ بسا اوقات دایاں پاؤں بائیں میں ڈال لیتے تھے اور بایاں دائیں میں۔ چنانچہ اس تکلیف کی وجہ سے آپ دیکھی جوتا پہنتے تھے۔ اسی طرح کھانا کھانے کا یہ حال تھا کہ خود فرمایا کرتے تھے ہمیں تو اس وقت پتہ لگتا ہے کہ کیا کھا رہے ہیں کہ جب کھانا کھاتے کھاتے کوئی کنکر وغیرہ کا ریزہ دانت کے نیچے آ جاتا ہے۔“ (سیرت المہدی، حصہ دوم، ص ۵۸، مصنفہ مرزا بشیر احمد قادیانی ابن مرزا قادیانی)

انیم کے کرشمے (مولف)

○ **جوتا:** ”ایک مرتبہ مرزا صاحب اور سید محمد علی شاہ تلاش روزگار کے خیال سے قادیاں سے چلے۔ کلا نور کے قریب ایک نالے سے گزرتے ہوئے مرزا صاحب کی جوتی کا ایک پاؤں نکل گیا۔ مگر اس وقت تک انہیں معلوم نہ ہوا جب تک وہاں سے بہت دور جا کر یاد نہیں کرایا گیا۔“ (حیات النبی، جلد اول، ص ۵۸، مولفہ یعقوب علی قادیانی)

جوتا بھی ہنستا ہوگا (مولف)

○ **لیٹرین کا قیدی:** ”بائیں طرف ایک چھوٹا سا کمرہ تھا جو پانخانہ کے لیے

استعمال ہوتا تھا۔ مگر پاخانہ کے واسطے کوٹھے کے اوپر اور جگہیں بھی تھیں۔ پس اس نیچے والے کمرے کو حضور نے صاف کرایا اور اسے خوب دھویا گیا اور اس میں فرش کیا گیا دوپہر کے وقت دو یا تین گھنٹے کے قریب حضور بالکل علیحدہ اندر سے کنڈی لگا کر اس میں بیٹھے رہتے تھے۔“ (ذکر حبیب ص ۳۳ از مفتی محمد صادق قادریانی)

کیا کوئی صحیح الدماغ انسان ایسی حرکتیں کرتا ہے؟ لیٹرن سے زندگی بھر بڑی محبت رہی۔ اسی لیے زندگی کا آخری سانس بھی لیٹرن میں لینا پسند کیا۔ (مولف)

○ انہی : ”حضرت مسیح موعود علیہ سلام نے تریاق الہی دوا خدا تعالیٰ کی ہدایت کے ماتحت بنائی اور اس کا ایک بڑا جز انہون تھا اور یہ دوا کسی قدر اور انہون کی زیادتی کے بعد حضرت خلیفہ اول (حکیم نور الدین) کو حضور (مرزا قادیانی) چھ ماہ سے زائد تک دیتے رہے اور خود بھی دقا“ فوقا“ مختلف امراض کے دوروں کے وقت استعمال کرتے رہے۔“ (مضمون میاں محمود احمد۔ اخبار الفضل جلد ۱۷ نمبر ۴ مورخہ ۱۹ جولائی ۱۹۳۹ء)

”انیم کا صدقہ جاریہ“ (مولف)

○ روٹی کا قتل : حضرت مسیح موعود علیہ الصلوٰۃ والسلام جب کھانا کھایا کرتے تھے تو بمشکل ایک پھلکا آپ کھاتے۔ اور جب آپ اٹھتے تو روٹی کے ٹکڑوں کا بہت سا چورہ آپ کے سامنے سے نکلتا۔ آپ کی عادت تھی کہ روٹی توڑتے اور اس کے ٹکڑے ٹکڑے کرتے جاتے پھر کوئی ٹکڑا اٹھا کر منہ میں ڈال لیتے اور باقی ٹکڑے دسترخوان پر رکھے رہتے معلوم نہیں حضرت مسیح موعود علیہ الصلوٰۃ والسلام ایسا کیوں کرتے تھے مگر کئی دوست کہا کرتے کہ حضرت صاحب یہ تلاش کرتے ہیں کہ ان روٹی کے ٹکڑوں میں سے کون سا تسبیح کرنے والا ہے اور کون سا نہیں۔ (میاں محمود احمد صاحب خلیفہ قادیان کا خطبہ جمعہ مندرجہ اخبار الفضل قادیان جلد ۲۲، نمبر ۱۰۵، مورخہ سہ مارچ ۱۹۳۵ء)

مرزا قادیانی خود کو مرغا سمجھ کر اپنے لیے بورے کرتا جاتا ہوگا (مولف)

○ گم سم : قاضی محمد یوسف صاحب پشاور نے بذریعہ تحریر مجھ سے بیان کیا کہ

حضرت ۸۶۷ احمد علیہ السلام جب مقدمہ گورداسپور کے ایام میں عدالت کے انتظار میں لب سڑک گورداسپور میں گھنٹوں تشریف فرما رہتے تو بسا اوقات لوگ خیال کرتے کہ آپ ان کی طرف دیکھ رہے ہیں۔ مگر آپ اکثر کسی اور خیال میں مستغرق ہوتے تھے۔ اور بعض اوقات مجلس میں بیٹھے ہوئے بھی مجلس سے جدا ہوتے تھے۔ (سیرت المہدیٰ حصہ سوم، ص ۲۵۳، مصنفہ مرزا بشیر احمد قادریانی ابن مرزا قادریانی)

مقدمہ میں جموٹا جو تھا اور سزا کے خوف سے یہ حالت بنی ہوگی (مولف)

○ نکاح کرا دیا: ڈاکٹر میر محمد اسماعیل صاحب نے مجھ سے بیان کیا کہ ایک دفعہ حضرت خلیفہ اول کے بڑے لڑکے میاں عبدالحی مرحوم کا نکاح بہت چھوٹی عمر میں حضرت صاحب (مرزا قادریانی) نے پیر منظور محمد صاحب کی چھوٹی لڑکی (حامدہ بیگم) کے ساتھ کرا دیا تھا۔ بعد میں معلوم ہوا کہ وہ دونوں رضاعی بھائی بن گئے۔ اس پر علماء جماعت کی معرفت اس مسئلہ کی چھان بین ہوئی کہ رضاعت سے کس قدر دودھ پینا مراد ہے۔ اور کیا موجودہ صورت میں رضاعت ہوئی بھی ہے یا نہیں۔ آخر تحقیقات کر کے اور مسئلہ پر غور کر کے یہ فیصلہ ہوا کہ واقعی یہ ہر دو رضاعی بن بھائی ہیں۔ اور نکاح فسخ ہو گیا۔ (سیرت المہدیٰ حصہ سوم، ص ۶۳، مصنفہ مرزا بشیر احمد قادریانی ابن مرزا قادریانی)

پتہ تو ہو گا۔ لیکن دونوں طرف سے کمیشن بھی تو لیتا تھی۔ یاد رہے مرزا قادریانی رشتے ناطے کو اٹانے کا بھی کام کرتا تھا (مولف)

○ ہائے ہائے: آپ کو اس بات کا بہت کم علم ہوتا تھا کہ حضرت مولوی نور الدین صاحب یا کوئی اور بزرگ مجلس میں کہاں بیٹھے ہیں۔ بلکہ جس بزرگ کی ضرورت ہوتی۔ خصوصاً جب حضرت مولوی نور الدین صاحب کی ضرورت ہوتی تو آپ فرمایا کرتے مولوی صاحب کو بلاؤ۔ حالانکہ اکثر وہ پاس ہی ہوتے تھے۔ (سیرت المہدیٰ حصہ سوم، ص ۵۶، مصنفہ مرزا بشیر احمد قادریانی ابن مرزا قادریانی)

اور کبھی کتا ہو گا۔ مجھ کو بلاؤ۔ میں کہاں ہوں؟ (مولف)

○ سفید بورا اور کونین: بیان کیا مجھ سے والدہ صاحبہ نے کہ ایک دفعہ حضرت

صاحب سناتے تھے کہ جب میں بچہ ہوتا تھا۔ تو ایک دفعہ بعض بچوں نے مجھے کہا کہ جاؤ گھر سے بیٹھا لاؤ۔ میں گھر میں آیا اور بغیر کسی سے پوچھنے کے ایک برتن میں سے سفید بورا اپنی جیبوں میں بھر کر باہر لے گیا۔ اور راستہ میں ایک مٹھی بھر کر منہ میں ڈال لی۔ بس پھر کیا تھا۔ میرا دم رک گیا اور بڑی تکلیف ہوئی۔ کیونکہ معلوم ہوا کہ جسے میں نے سفید بورا سمجھ کر جیبوں میں بھرا تھا وہ بورا نہ تھا بلکہ پسا ہوا نمک تھا۔ خاکسار عرض کرتا ہے کہ مجھے یاد آیا کہ ایک دفعہ گھر میں مٹھی روٹیاں پکیں کیونکہ حضرت صاحب کو مٹھی روٹی پسند تھی۔ جب حضرت صاحب کھانے لگے تو آپ نے اس کا ذائقہ بدلا ہوا پایا۔ مگر آپ نے اس کا خیال نہ کیا کچھ اور کھانے پر حضرت صاحب نے کڑواہٹ محسوس کی۔ اور والدہ صاحبہ سے پوچھا۔ کہ یہ کیا بات ہے کہ روٹی کڑوی معلوم ہوتی ہے؟ والدہ صاحبہ نے پکانے والی سے پوچھا اس نے کہا میں نے تو بیٹھا ڈالا تھا۔ والدہ صاحبہ نے پوچھا کہ کہاں سے لے کر ڈالا تھا؟ وہ برتن لاؤ۔ وہ عورت ایک ٹین کا ڈبہ اٹھالائی دیکھا تو معلوم ہوا کہ کونین کا ڈبہ تھا۔ اور اس عورت نے جمالت سے بجائے مٹھے کے روٹیوں میں کونین ڈال دی۔ (سیرت المہدی، حصہ اول، ص ۲۳۳، مصنفہ مرزا بشیر احمد قادریانی ابن مرزا قادریانی)

معلوم ہوتا ہے کہ دماغی طور پر سارا گھر ہی معذور تھا (مولف)

○ پانگلوں کا جوڑا: بیان کیا مجھ سے والدہ صاحبہ نے کہ حضرت صاحب کے ایک حقیقی ماموں تھے۔ (جن کا نام مرزا جمعیت بیگ تھا) ان کے ہاں ایک لڑکا اور ایک لڑکی ہوئے اور ان کے دماغ میں کچھ خلل آ گیا تھا۔ لڑکے کا نام مرزا علی شیر تھا۔ اور لڑکی کا حرمت بی بی۔ لڑکی حضرت صاحب کے نکاح میں آئی۔ (سیرت المہدی، حصہ اول، ص ۲۵۵، مصنفہ مرزا بشیر احمد قادریانی ابن مرزا قادریانی)

دو پانگلوں کا ملاپ (مولف)

○ ٹیڑھی نب، اوپلے کی دوات اور گنگناہٹ: خاکسار عرض کرتا ہے کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام تحریر کا کام آخری زمانہ میں ٹیڑھے نب سے کیا کرتے تھے اور بغیر خطوط کا سفید کاغذ استعمال فرماتے تھے۔ آپ کی عادت تھی کہ کاغذ لے کر اس کی دو جانب ہنکن ڈال لیتے تھے۔ تاکہ دونوں طرف سفید حاشیہ رہے اور آپ کالی روشنائی

سے بھی لکھ لیتے تھے۔ اور بلیو بلیک سے بھی اور مٹی کا ایلہ سا بنوا کر اپنی دوات اس میں نصب کروا لیتے تھے تاکہ گرنے کا خطرہ نہ رہے۔ آپ ہالعموم لکھتے ہوئے ٹہلتے بھی جاتے تھے یعنی ٹہلتے بھی جاتے تھے اور لکھتے بھی۔ اور دوات ایک جگہ رکھ دیتے تھے۔ جب اس کے پاس سے گزرتے۔ نب کو تر کر لیتے۔ اور لکھنے کے ساتھ ساتھ اپنی تحریر کو پڑھتے بھی جاتے تھے۔ اور آپ کی عادت تھی کہ جب آپ اپنے طور پر پڑھتے تھے۔ تو آپ کے ہونٹوں سے گنگنائے کی آواز آتی تھی۔ (سیرت المہدیٰ، حصہ اول، ص ۲۰، مصنفہ مرزا بشیر احمد قاریانی ابن مرزا قاریانی)

ایک مکمل پاگل کی مکمل نشانیاں موجود ہیں (مولف)

عقل کا نوحہ: ڈاکٹر میر محمد اسماعیل صاحب نے مجھ سے بیان کیا کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام اپنی جسمانی عادات میں ایسے سادہ تھے کہ بعض دفعہ جب حضور جراب پہنتے تھے تو بے توجہی کے عالم میں اس کی ایڑی پاؤں کے تلے کی طرف نہیں بلکہ اوپر کی طرف ہو جاتی تھی اور بارہا ایک کالج کا بٹن دوسرے کالج میں لگا ہوا ہوتا تھا اور بعض اوقات کوئی دوست حضور کے لیے گرگلابی ہدیتہ لانا تو آپ بسا اوقات دایاں پاؤں بائیں میں ڈال لیتے تھے اور بائیں دائیں میں۔ چنانچہ اسی تکلیف کی وجہ سے آپ دسی جوتی پہنتے تھے۔ اس طرح کھانا کھانے کا یہ حال تھا کہ خود فرمایا کرتے تھے کہ ہمیں تو اس وقت پتہ لگتا ہے کہ کیا کھا رہے ہیں کہ جب کھاتے کھاتے کوئی کنکر و فیروہ کا ریزہ دانت کے نیچے آ جاتا ہے۔ (سیرت المہدیٰ، حصہ دوم، ص ۵۸، مصنفہ مرزا بشیر احمد قاریانی)

تم عقل کے اندھوں کو الٹا نظر آتا ہے

بچوں نظر آتی ہے لیٹا نظر آتا ہے (مولف)

○ حاضر دماغی: ”بسا اوقات ایسا ہوتا تھا کہ سیر کو جاتے ہوئے آپ کسی خادم کا ذکر عتاب کے صیغہ میں فرماتے تھے حالانکہ وہ آپ کے ساتھ ساتھ جا رہا ہوتا تھا اور پھر کسی کے جتانے پر آپ کو پتہ چلتا تھا کہ وہ شخص آپ کے ساتھ ہے۔“ (سیرت المہدیٰ، حصہ دوم، ص ۷۷، مصنفہ مرزا بشیر احمد قاریانی)

کیونکہ خود بھی ذہنی طور پر عتاب رہتا تھا (مولف)

گڑ اور وٹوانیاں: ”آپ کو (یعنی مرزا قادیانی) کو شیرینی سے بہت پیار ہے اور مرض بول بھی آپ کو عرصہ سے لگی ہوئی ہے۔ اس زمانہ میں آپ مٹی کے ڈھیلے بعض وقت جیب میں ہی رکھتے تھے اور اسی جیب میں گڑ کے ڈھیلے بھی رکھ لیا کرتے تھے۔“ (مرزا قادیانی کے حالات زندگی مرتبہ معراج الدین عمر قادیانی تتمہ براہین احمدیہ جلد اول ص ۶۷)

اور یہ بات ضرب المثل کی طرح مشہور تھی کہ مرزا گڑ سے استنجا کر لیتا ہے اور وٹوانیاں منہ میں ڈال لیتا ہے (مولف)

○ بٹن اور کاج: بارہا دیکھا گیا کہ بٹن اپنا کاج چھوڑ کر دوسرے ہی میں لگے ہوئے ہوتے تھے۔ بلکہ صدری کے بٹن کوٹ کے کاجوں میں لگائے ہوئے دیکھے گئے۔“ (سیرت المہدیٰ، حصہ دوم، ص ۳۶ مصنفہ مرزا بشیر احمد قادیانی)

دماغ کے بٹن بھی ایسے ہی لگے ہوئے تھے (مولف)

○ یادداشت: ”بیان کیا مجھے سے مولوی ذوالفقار علی خان صاحب نے کہ جن دنوں میں گورداسپور میں کرم دین کا مقدمہ تھا ایک دن حضرت صاحب پکھری کی طرف تشریف لے جانے لگے اور حسب معمول پہلے دعا کے لیے اس کمرہ میں گئے جو اس غرض کے لیے پہلے مخصوص کر لیا تھا۔ میں اور مولوی محمد علی صاحب وغیرہ باہر انتظار میں کھڑے تھے اور مولوی صاحب کے ہاتھ میں اس وقت حضرت صاحب کی چھڑی تھی۔ حضرت صاحب دعا کر کے باہر نکلے تو مولوی صاحب نے آپ کو چھڑی دی۔ حضرت صاحب نے چھڑی ہاتھ میں لے کر اسے دیکھا اور فرمایا کس کی چھڑی ہے؟ عرض کیا گیا کہ حضور ہی کی ہے جو حضور اپنے ہاتھ میں رکھا کرتے ہیں۔ آپ نے فرمایا۔ اچھا میں تو سمجھا تھا کہ یہ میری نہیں ہے۔ خان صاحب کہتے ہیں کہ وہ چھڑی مدت سے آپ کے ہاتھ میں رہتی تھی۔“ (سیرت المہدیٰ، حصہ اول، ص ۲۳۵، مصنفہ مرزا بشیر احمد قادیانی ابن مرزا قادیانی)

کیسے بد نصیب ہیں وہ جو اسے رہنما مانتے ہیں (مولف)

○ ہنرمندی: ”ایک دفعہ گھر میں ایک مرغی کے چوزہ کے ذبح کرنے کی ضرورت

پیش آئی۔ اور اس وقت گھر میں کوئی اور اس کام کو کرنے والا نہ تھا۔ اس لیے حضرت صاحب اس چوزہ کو ہاتھ میں لے کر خود ذبح کرنے لگے۔ مگر بجائے چوزہ کی گردن پر چھری پھیرنے کے غلطی سے اپنی انگلی کاٹ ڈالی جس سے بہت خون گیا۔ (سیرت المہدیٰ حصہ دوم، ص ۳، مصنفہ مرزا بشیر احمد قادیانی ابن مرزا قادیانی)

کاش چھری اپنی گردن پہ پھیر لیتا (مولف)

○ ضعف دماغ: میری طبیعت آپ کے بعد پھر بیمار ہو گئی۔ ابھی ریزش کا نہایت زور ہے۔ دماغ بہت ضعیف ہو گیا ہے۔ آپ کے دوست ٹھا کر رام کے لیے ایک دن بھی توجہ کرنے کے لیے مجھے نہیں ملا۔ صحت کا خطر ہوں۔

جو کبھی نہ ہوئی (مولف)

والسلام

(خاکسار غلام احمد مورخہ یکم جنوری ۱۸۹۰ء) (مکتوبات احمدیہ جلد پنجم نمبر ۲ مولفہ یعقوب علی عرفانی قادیانی)

جوں جوں ضعف دماغ بڑھتا گیا توں توں نبوت کا جنون بھی بڑھتا گیا (مولف)

○ حافظہ کا ستیاناس: مگر می اخو یکم سلمہ میرا حافظہ بہت خراب ہے۔ اگر کئی دفعہ کسی کی ملاقات ہو تب بھی بھول جاتا ہوں یاد دہانی عمدہ طریقہ ہے۔ حافظہ کی یہ ابتری ہے کہ بیان نہیں کر سکتا۔

(خاکسار غلام احمد از صدر انبالہ احاطہ ناگ پھنی)

(مکتوب احمدیہ جلد پنجم نمبر ۳، ص ۳۱، مجموعہ مکتوبات مرزا قادیانی)

تف ہے ان لوگوں پر جو اس تحریر کو پڑھ کر بھی تجھے نبی مانتے ہیں (مولف)

○ مراقبہ: سیٹھ غلام نبی نے بذریعہ تحریر بیان کیا کہ ایک دن کا ذکر ہے کہ حضرت خلیفۃ المسیح الاول نے حضرت مسیح موعود سے فرمایا کہ حضور غلام نبی کو مراقبہ ہے تو حضور نے فرمایا۔ ایک رنگ میں سب نبیوں کو مراقبہ ہوتا ہے اور مجھ کو بھی ہے۔ (سیرت المہدیٰ، حصہ سوم، ص ۳۰۳، مصنفہ مرزا بشیر احمد قادیانی ابن مرزا قادیانی)

لیکن مراق صرف مجموعے میں نہیں کے لیے ہوتا ہے (مولف)

○ مراق: مراق کا مرض حضرت مرزا صاحب کو موروثی نہ تھا بلکہ یہ خارجی اسباب کے ماتحت پیدا ہوا تھا اور اس کا باعث سخت دماغی محنت، تفلکرات، غم اور سوئے ہضم تھا۔ جس کا نتیجہ دماغی ضعف تھا اور جس کا اظہار مراق اور دیگر ضعف کی علامات مثلاً دوران سر کے ذریعہ ہوتا تھا۔ (رسالہ ریویو قادیان، ص ۱۰، اپریل ۱۹۳۶ء)

سارا فساد دماغ ہی کا تھا۔ دماغ درست ہو جاتا تو دعویٰ نبوت سے توبہ بھی کر لیتا (مولف)

○ ہسٹریا: ڈاکٹر میر محمد اسماعیل صاحب نے مجھ سے بیان کیا کہ میں نے کئی دفعہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام سے سنا ہے کہ مجھے ہسٹریا ہے بعض اوقات آپ مراق بھی فرمایا کرتے تھے۔ لیکن دراصل بات یہ ہے کہ آپ کو دماغی محنت اور شبانہ روز تصنیف کی مشقت کی وجہ سے بعض ایسی عصبی علامات پیدا ہو جایا کرتی تھیں جو ہسٹریا کے مریضوں میں بھی عموماً دیکھی جاتی ہیں۔ مثلاً کام کرتے کرتے یک دم ضعف ہو جانا، چکروں کا آنا، ہاتھ پاؤں کا سرد ہو جانا، گھبراہٹ کا دورہ ہو جانا، ایسا معلوم ہوتا کہ ابھی دم لگتا ہے یا کسی تنگ جگہ یا بعض اوقات زیادہ آدمیوں میں گھر کر بیٹھنے سے دل کا سخت پریشان ہونے لگنا وغیرہ ذالک۔ (سیرت المہدی، حصہ دوم ص ۵۵، مصنفہ مرزا بشیر احمد قادیانی ابن مرزا قادیانی)

شیطان جب جسم میں داخل ہوتا ہے تو ایسا ہی ہوتا ہے۔ (مولف)

قادیانیو! یہ ہے تمہارے مرزا قادیانی کا دماغ — یہ ہے تمہارے مرزا قادیانی کا ذہن — یہ ہے تمہارے مرزا قادیانی کی دماغی پرواز — مرزے کا دماغ عقل کا نوحہ ہے — مرزے کا ذہن خرد کا ماتم ہے — مرزے کی سوچ فہم و فراست کی موت ہے — اس کا حافظہ پاگل کا ققمہ اور اس کی یادداشت پاگل کی چیخ ہے۔ اے گم کردہ راہ لوگو! اگر تم اپنی آنکھوں سے تعصب کی عینک اتار دو — اگر تم اپنے کانوں سے ہٹ دھرمی کی روٹی نکال دو — اگر تم اپنے دماغوں کے قفل کھول دو — اگر تم اپنی سوجھوں سے

شیطان کے پہرے ہٹالو۔۔۔۔۔ تو میں تم سے کچھ باتیں کرنا چاہوں گا۔

قادیا نیو! بتاؤ

اگر تم وکیل ہو تو کیا تم ایسے شخص کو اپنا منشی رکھنا گوارا کرو گے؟
 اگر تم ڈاکٹر ہو تو کیا تم ایسے بندے کو اپنا ڈسپنسر رکھنا قبول کرو گے؟
 اگر تم افسر ہو تو کیا تم ایسے آدمی کو اپنا ڈرائیور رکھنا پسند کرو گے؟
 اگر تم صاحب ثروت ہو تو کیا تم ایسے فرد کو اپنا باورچی رکھنا منظور کرو گے؟
 اگر تم باپ ہو تو کیا ایسے انسان کو اپنے بچے کا استاد بنانا مان لو گے؟
 اگر تم محلے کی کمیٹی کے سربراہ ہو تو کیا تم ایسے شخص کو محلے کا چوکیدار بننا تسلیم کر لو گے؟

نہیں۔۔۔۔۔ قطعاً نہیں۔۔۔۔۔ بالکل نہیں۔۔۔۔۔ اس لیے کہ اگر تم اسے اپنا منشی رکھو گے تو یہ فائر لعل سول کورٹ کا کیس ہائی کورٹ میں، ہائی کورٹ کا کیس سیشن کورٹ میں، سیشن کورٹ کا کیس سپریم کورٹ میں اور سپریم کورٹ کا کیس کسی مجسٹریٹ کی عدالت میں لگا دے گا۔

اگر تم اسے اپنا ڈسپنسر رکھو گے تو یہ مخبوط الحواس بخار کے مریض کو یرقان کی دوائی اور یرقان کے مریض کو بوا سیر کی دوائی دے گا۔

اگر تم اس افیم خور کو اپنا ڈرائیور رکھو گے تو یہ جھومتا جھامتا، سوتا جاگتا بہت جلد عزرائیل سے آپ کی ملاقات بمعہ اہل و عیال کرا دے گا۔

اگر تم اس مراق زدہ کو اپنا باورچی رکھو گے تو یہ تمہیں نمکین زردہ، میٹھا پلاؤ، مرچوں والا حلوہ اور کبھی خوشی میں آکر گنڈیریاں کر لے بھی کھلائے گا۔ اگر تم اس بے وقوف کو اپنے بچے کا استاد بناؤ گے۔ تو یہ افیم کی ایک گولی خود اور ایک بچے کو کھلائے گا۔ دونوں راکٹ بن کر فضا میں اڑیں گے اور زمین پر بیٹھ کر آسمان کی باتیں کریں گے۔

اگر تم اسے اپنے محلے کا چوکیدار بناؤ گے۔۔۔۔۔ تو یہ دشمن فہم و دانش جو ساری زندگی اپنے جوتوں کی چوکیداری نہ کر سکا لوگوں کے مال کی خاک چوکیداری کرے گا۔

قادیانیو! تم اسے اپنا منشی بنانا قبول نہیں کرتے۔۔۔۔۔ اسے باورچی رکھنا بھی منظور نہیں کرتے۔۔۔۔۔ اسے اپنے بچے کا استاد بھی نہیں مانتے۔۔۔۔۔ اسے اپنا ڈرائیور بنانا بھی گوارا نہیں کرتے۔۔۔۔۔ اسے ڈھنسر رکھنے کے لیے بھی تیار نہیں۔۔۔۔۔ اسے چوکیدار رکھنا بھی تسلیم نہیں کرتے۔۔۔۔۔!!!

لیکن۔۔۔۔۔ ہائے تمہارا انتخاب۔۔۔۔۔ تم نے اسے نبی مان لیا۔۔۔۔۔ اپنا راہنما مان لیا۔۔۔۔۔ مرزے کو نبی ماننا عقل کی توہین ہے۔۔۔۔۔ اور تم اس دنیا میں سب سے بڑے فاترالعقل ہو۔۔۔۔۔

قادیانیو! خاتم النبیین جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کے بعد جو بد بخت کسی نئے نبی کی تلاش میں لگتا ہے تو شیطان اس کا رابطہ فوراً مرزا قادیانی سے کرا دیتا ہے۔ اس کے ساتھ ہی اس بد بخت پر مہریں لگ جاتی ہیں۔ وہ آنکھیں تو رکھتا ہے۔ مگر دیکھتا نہیں۔۔۔۔۔ اس کے پاس کان تو ہوتے ہیں لیکن وہ سنتا نہیں۔۔۔۔۔ اس کا دماغ تو ہوتا ہے مگر سوچتا نہیں۔۔۔۔۔ قدرت اسے یہ سزا انکار ختم نبوت کی وجہ سے دیتی ہے۔۔۔۔۔ کیونکہ انکار ختم نبوت انکار قرآن ہے۔۔۔۔۔ انکار ختم نبوت انکار احادیث ہے۔۔۔۔۔ انکار ختم نبوت انکار کتب سادی ہے۔۔۔۔۔ انکار ختم نبوت اللہ کی حقانیت پر ہزبان ہے۔۔۔۔۔ اور انکار ختم نبوت رسول اللہ پر بہتان ہے۔۔۔۔۔!!!

دیکھو گے برا حال محمدؐ کے عدو کا
منہ پر ہی گرا جس نے چاند پہ تھوکا



مسطر

گالی گلوچ

گالی ساز، گالی باز اور گالی بار مرزا کا گالی نامہ

عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت
ننکانہ صاحب
ضلع شیخوپورہ

یورپ! جسے ایڈز کی بیماری کی جنم بھومی ہونے کا اعزاز حاصل ہے۔
 جہاں حیا سر پختی اور شرافت لوحِ خواں ہے۔
 جہاں شراب اور خنزیر کی حکمرانی ہے۔
 جہاں کتا ہر گھر کا نہایت اہم فرد ہے۔
 جہاں قانون کے حصار میں لواطت ہوتی ہے اور قاتل و مفسول معاشرے میں
 عزت کی نگاہ سے دیکھے جاتے ہیں۔

جہاں بہنوں کے •طنوں سے بھائیوں کے بچے پیدا ہوتے ہیں۔
 جہاں انسانی اقدار کو پھانسی دے دی گئی ہے۔
 جس نے دنیا میں ”موائے فریڈز“ جیسا غلیظ رشتہ متعارف کرایا ہے۔
 جس نے دنیا کو وائف ایکسچینج کلبوں سے آشنا کیا ہے۔
 جہاں کے صلیب کے پجاریوں نے ہندوستان میں جموٹی نبوت کی داغ بیل

ڈالی۔

جو شامتان رسولؐ کی پناہ گاہ ہے۔
 جہاں لعین سلمان رشدی کو تحفظ ملتا ہے۔
 جہاں ملعونہ تسلیمہ نسرین اپنے آقاؤں کی گود میں بیٹھ کر اللہ کے حبیبؐ اور
 اللہ کے دین پر ہرزہ سرائی کرتی ہے۔
 جہاں مسیلمہ ثانی مرزا قادیانی کے جانشین، کذاب عصر، مرزا طاہر کو جعلی نبوت
 کے لیے مرکز میا کیا جاتا ہے۔

یورپ کے اسی گندے معاشرے اور گندی تہذیب کے ایک فرد کے دل میں
 یہ شوق انگزائی لیتا ہے کہ دنیا میں بھی جانے والی ساری گالیوں کو ایک جگہ اکٹھا کر دیا
 جائے۔ اپنے اس پاپی اور گلابی شوق کی تکمیل کے لیے وہ مگر مگر گیا، شہر شہر گھوما، ملک
 ملک کا سفر کیا، جنگلوں اور ریگستانوں میں رہنے والے قبائلیوں کے پاس گیا، خانہ
 بدوشوں سے ملاقات کی اور ایک لمبے عرصے کے بعد گالیوں کی ایک ضخیم کتاب مرتب
 کر ڈالی۔ راقم نے جب اس سفر گناہ کی تفصیل پڑھی تو مرتب کی عقل و خود پر بڑا
 افسوس ہوا کہ بے چارے نے خواہ مخواہ ہزاروں ملیوں کا سفر کیا۔ لاکھوں روپے کی

خطیر رقم خرچ کر ڈالی۔ موسموں کی سختیاں برداشت کیں۔ گھربار، عزیز و اقارب اور دوست احباب کو صدمہ بردائی دیا۔ گالیوں کے ماہرن کی منتیں ساجتیں کیں۔ اگر مرتب کو مرزا قادیانی اور اس کی تصانیف کے بارے میں معلوم ہوتا تو اسے ان کٹھن مراحل سے نہ گزرنا پڑتا۔ وہ کہیں سے مرزا قادیانی کی کتابوں کا سیٹ حاصل کرتا اور اپنے سٹڈی روم میں بیٹھ کر پندرہ بیس دنوں میں ساری کتابیں پڑھ جاتا اور جہاں جہاں گالیاں آتیں انہیں انڈر لائن کرتا جاتا اور بعد میں جب ان گالیوں کی ورائٹی کو اکٹھا کرتا تو موجودہ کتاب سے ضخیم کتاب اس کے ہاتھ میں ہوتی۔

اسے معلوم ہونا چاہیے تھا کہ جعلی نبی سب سے بڑا گالی ساز، گالی باز اور گالی بار ہوتا ہے۔ وہ پھلڑ بازی میں مہارت تامہ رکھتا ہے، وہ یادہ گوئی میں یدِ طولی رکھتا ہے، وہ بکواس دانی میں لاثانی ہوتا ہے، وہ فحش گوئی میں بے نظیر ہوتا ہے، وہ بدکلامی میں بے مثل ہوتا ہے، یہ سارے اوصاف اسے شیطان کی طرف سے عطا کردہ معجزے ہوتے ہیں اور وہ ان ”معجزوں“ سے شریفوں کو عاجز کر دیتا ہے۔ مرزا قادیانی کے سامنے غلیظ گالیاں سیاہ لباس پہنے کینروں کی طرح لائن میں کھڑی ہوتیں اور وہ سر جھکائے مرزے کی زبان کے انتخاب کا انتظار کرتیں۔ حکم ملتے ہی گالی مرزے کی زبان پر ہوتی اور اگلے لمحے مرزا کی زبان کی لہلیبی اسے حریف پر پھینک دیتی۔ مرزا قادیانی کی کتابوں میں گالیوں کے انبار یوں نظر آتے ہیں جیسے فلتہ ڈپوؤں پر گندگی کے انبار! جس طرح ان فلتہ ڈپوؤں سے گندگی کے انبار اٹھانے سے کارپوریشن کے ٹرک بھر جاتے ہیں، اسی طرح مرزا قادیانی کی کتابوں سے بھی گالیوں کے ٹرک بھرے جا سکتے ہیں۔ اب ہم آپ کی خدمت میں مرزا قادیانی کی قادیانی نبوت کی زبان سے نکلی ہوئی چند گالیاں بطور نمونہ پیش کرتے ہیں۔ آپ یہ عارفانہ، عاجزانہ، ملیحانہ، مشفقانہ اور شریفانہ کلام پڑھئے اور سوچئے کہ کیا کائنات میں کسی ماں نے اس سے بڑا گالی باز پیدا کیا ہے۔

○ ”سعد اللہ لدھیانوی بے وقوفوں کا نطفہ اور کجبری کا بیٹا ہے۔“ (تترہ)

حقیقت الوحی، ص ۱۳، مصنفہ مرزا قادیانی

معلوم ہوتا ہے کہ تیرے رگ و ریشے میں گالیاں رچی بسی تھیں۔ (ناقل)

○ ”خدا تعالیٰ نے اس کی بیوی کے رحم پر مہر لگا دی۔“ (تمہ حقیقت الوحی، ص ۳۳، مصنفہ مرزا قادیانی)

نہیں مہر تیرے دل، تیرے داغ، تیرے کالوں اور تیری آنکھوں پر لگی تھی۔
(ناقل)

○ ”آریوں کا پریش (خدا) ناف سے دس انگل نیچے ہے۔ سمجھنے والے سمجھ لیں۔“ (چشمہ معرفت، ص ۳۶، مصنفہ مرزا قادیانی)

جیومیٹری کو خوب سمجھتا تھا۔ (ناقل)

○ ”ہر مسلمان مجھے قبول کرتا ہے اور میرے دعوے پر ایمان لاتا ہے، مگر زنا کار کبجریوں کی اولاد، جن کے دلوں پر خدا نے مہر کر دی ہے، وہ مجھے قبول نہیں کرتے۔“ (آئینہ کمالات اسلام، ص ۵۳، مصنفہ مرزا قادیانی)

مرزا قادیانی! تیرا حقیقی بیٹا مرزا فضل احمد تمہ پر ایمان نہ لایا۔ اس لحاظ سے وہ بھی زنا کار اور کبجری کی اولاد ٹھہرا اور ذرا بتا، تو اور تیری بیوی کیا ٹھہرے؟

○ ”جھوٹے آدمی کی یہی نشانی ہے کہ جاہلوں کے رویوں تو بہت لاف گزارف مارتے ہیں مگر جب کوئی دامن پکڑ کر پوچھے کہ ذرا ثبوت دے کر جاؤ تو جہاں سے نکلے تھے وہیں داخل ہو جاتے ہیں۔“ (حیات احمد، جلد ۱، ص ۳، ۲۵)

لگتا ہے یہ مرزا قادیانی کی آپ بیتی ہے کیونکہ جھوٹے نبی سے لوگ ثبوت مانگتے ہوں گے۔ (ناقل)

○ ”عبداللہ کو پوچھنا چاہیے کہ اس کا وہ مبالغہ کی برکت کا لڑکا کہاں گیا۔ کیا اندر ہی اندر پیٹ میں تحلیل پا گیا یا رجعت قمری کر کے نطفہ بن گیا۔ اب تک اس کی عورت کے پیٹ سے ایک چوہا بھی پیدا نہ ہوا۔“ (ضمیمہ انجام آتھم، ص ۲۷، مصنفہ مرزا قادیانی)

لوگوں کے گھروں کی خبر رکھنے والے، کیا تجھے اپنے گھر کی خبر تھی؟

ع ہم اگر عرض کریں گے تو شکایت ہوگی

○ ”جو لوگ انسانوں میں سے شیطان ہیں وہ مجھے نہیں مانتے۔“ (چشمہ معرفت، ص ۳۱، مصنفہ مرزا قادیانی)

تو ہے کیا؟ پرائمری ٹیل انگریزی نبی!

○ "لعنت۔ لعنت۔ لعنت۔ لعنت۔ لعنت۔ لعنت۔ لعنت۔ لعنت۔"

اے بھیڑیے، اے عورتوں کی عارِ ثناء اللہ، اے جنگلوں کے غول تجھ پر ویل" (اعجاز

احمدی، ص ۸۱، مصنفہ مرزا قاریانی)

ویسے تمہارا سانس کافی لمبا ہے۔ (ناقل)

○ چکے چکے چکے حرام کروانا
 نام اولاد کے حصول کا ہے
 پیٹا پیٹا پکارتی ہے غلط
 دس سے کروا چکی ہے زنا لیکن
 زن بیگانہ پر یہ شیدا ہیں
 آریوں کا اصول بھاری ہے
 ساری شہوت کی بے قراری ہے
 یار اس کی آہ و زاری ہے
 پاک دامن ابھی بے چاری ہے
 جس کو دیکھو وہی شکاری ہے

(آریہ دھرم، ص ۷۶-۷۷، مصنفہ مرزا قاریانی)

تمام قاریانی اپنے ہر جلمے میں نہایت ترنم کے ساتھ اسے مل کر گائیں۔

(ناقل)

○ "اور ہٹالوی کو ایک مجنون راندہ کی طرح تکفیر اور لعنت کی جھاگ منہ سے

ٹکانے کے لیے چھوڑ دیا۔" (آسانی فیصلہ، ص ۳۳، مصنفہ مرزا قاریانی)

ویسے تیرے تو اس جلمے کے منہ سے بھی جھاگ نکل رہی ہے۔ (ناقل)

○ "جموٹ بولنا اور نجاست کھانا ایک برابر ہے۔ تعجب ہے کہ ان لوگوں کو

نجاست خوری کا کیوں شوق ہو گیا۔" (آسانی فیصلہ، ص ۳۲، مصنفہ مرزا قاریانی)

پھر تو تم نے شوں کے حساب سے نجاست کھائی ہے۔ (ناقل)

○ "موضع مد میں ————— سخت بے حیائی سے جموٹ بولا

————— وہ انسان کتوں سے بدتر ہوتا ہے کہ جو بے وجہ بھونکتا ہے۔" (اعجاز

احمدی، ص ۲۳، مصنفہ مرزا قاریانی)

موضع "مد" ضلع امرتسر کا ایک گاؤں تھا جہاں مولانا ثناء اللہ امرتسری اور

قاریانیوں کے درمیان مباحثہ ہوا تھا۔ وہاں مولانا موصوف نے قاریانیوں کی خوب

مرمت کی۔ مرزا قاریانی میدان کی اس شکست کا بدلہ گالیاں دے کر لے رہا ہے۔

(ناقل)

○ ”نشئی الہی بخش نے جموٹے الزاموں — کی نجات سے اپنی کتاب عصائے موسیٰ کو ایسا بھر دیا ہے جیسا کہ ایک نالی اور بدرو گندی کیچڑ سے بھر جاتی ہے یا جیسا کہ سنڈاس پاخانہ ہے۔“ (حاشیہ اربعین، نمبر ۴، ص ۲۷)

ویسے تیرے دماغ کا بھی یہی حال ہے۔ (ناقل)

○ ”مرزا صاحب ایک ایک فقرہ (مکتوب مولانا ثناء اللہ) سنتے جاتے تھے اور بڑے غصہ سے بدن پر ریشہ تھا اور دہان مبارک سے خوب گالیاں دیتے تھے — چند الفاظ — یہ ہیں۔

خبیث، سور، کتا، بدذات، گوں خور، ہم اس (ثناء اللہ) کو کبھی (جلسہ عام) میں نہ بولنے دیں گے۔ گدھے کی طرح لگام دے کر بٹھائیں گے اور گندگی اس کے منہ میں ڈالیں گے۔“ (الہامات مرزا، از ثناء اللہ حاشیہ ص ۴۲)

لگتا ہے مولانا ثناء اللہ امرتسری کا پاؤں مرزا قادیانی کی دم پر آ گیا تھا۔ (ناقل)

○ ”اے بدذات مولویو! تم کب تک حق کو چھپاؤ گے۔ کب وہ وقت آئے گا کہ تم یہودیانہ خصلت کو چھوڑو گے۔ اے ظالم مولویو! تم پر افسوس کہ تم نے جس بے ایمانی کا پیالہ پیا، وہی عوام کا لانعام کو پلایا۔“ (انجام آختم، حاشیہ ص ۲۱، مصنفہ مرزا قادیانی)

لگتا ہے دل میں گالیوں کا پلانٹ لگایا ہوا تھا۔ (ناقل)

○ ”بعض خبیث طبع مولوی جو یسویت کا خمیر اپنے اندر رکھتے ہیں — یہ دل کے مخدوم اور اسلام کے دشمن — دنیا میں سب جانداروں سے زیادہ پلید اور کراہت کے لائق خنزیر ہے مگر خنزیر سے زیادہ پلید وہ لوگ ہیں جو اپنے نفسانی جوش کے لیے حق اور دیانت کی گواہی چھپاتے ہیں۔ اے مردار خوار مولویو! اور گندی روحو! — اے اندھیرے کے کیڑو (ضمیمہ انجام آختم، حاشیہ ص ۲۱، مصنفہ مرزا قادیانی)

گالیوں کا عالمی چیپٹن۔ (ناقل)

(ناقل)

○ ”اس جگہ فرعون سے مراد شیخ محمد حسین بٹالوی اور ہامان سے مراد نو مسلم سعد اللہ ہے۔“ (ضمیمہ انجام آتھم، ص ۵۶، مصنفہ مرزا قادیانی)

خدائی کا دعویٰ شیخ محمد بٹالوی اور سعد اللہ شاہ نے نہیں بلکہ تو نے کیا تھا۔
اس لیے فرعون اور ہامان تو ہے۔ (ناقل)

○ ”اے بے ایمانوں! نیم عیسائیوں! دجال کے مہراہیو! اسلام کے دشمنو! تمہاری ایسی عیسیٰ ہے۔“ (اشتہار انعامی تین ہزار، حاشیہ ص ۵)

محسوس ہوتا ہے مرزا قادیانی قبض اتار کر لڑنے کے لیے تیار کھڑا ہے۔
(ناقل)

○ ”مجھے ایک کذاب کی طرف سے پہنچی ہے۔ وہ غبیث کتاب بچھو کی طرح نیش زن ہے۔ اے گولہ کی سرزمین تجھ پر لعنت، تو ملعون کے سبب، ملعون ہو گئی۔“
(اعجاز احمدی، ص ۷۵، مصنفہ مرزا قادیانی)

نہیں! قادیان کی زمین ملعون کے سبب، ملعون ہو گئی۔ (ناقل)

○ مر گیا بد بخت اپنے وار سے کٹ گیا سر اپنی ہی تلواری سے
کھل گئی ساری حقیقت سیف کی کم کرو اب ناز اس مروار سے
(نزول المسیح، ص ۲۲۳، مصنفہ مرزا قادیانی)

بدبودار انسان ————— بدبودار شاعری (ناقل)

○ ”مر علی نے ایک مردہ کا مضمون چرا کر کفن وزدوں کی طرح قابل شرم چوری کی ہے۔۔۔ نہ صرف چور بلکہ کذاب بھی لعنت اللہ علی الکاذبین، رہا محمد حسن۔۔۔ جس نے جھوٹ کی نجاست کھا کر وہی نجاست پھر صاحب کے منہ پر رکھ دی۔۔۔ اس کے مروار کو چرا کر پھر مر علی نے اپنی کتاب میں کھایا۔“ (نزول المسیح، حاشیہ ص ۷۰-۷۱، مصنفہ مرزا قادیانی)

کیوں اپنی زبان سے اپنے وجود اور روح پر لعنت بھیج رہے ہو۔ (ناقل)

○ ”اور میں اعلان سے کہتا ہوں کہ جس قدر فقراء میں سے اس عاجز کے کفر یا مکذب ہیں وہ تمام اس کامل لعنت مکالمہ ایہ سے بے نصیب ہیں اور محض

ساری دنیا نے دیکھا کہ مرضِ ریضہ سے لیٹرن میں مرنے کے بعد تیرے منہ سے نجات بہ رہی تھی۔ (ناقل)

○ ”دروغ گو بے حیا کا منہ ایک ہی ساعت میں سیاہ ہو جاتا ہے۔“ (نزول المسیح، ص ۳۳، مصنفہ مرزا قاریانی)

یعنی تیرے جیسا ہو جاتا ہے۔ (ناقل)

○ ”بیر مر علی شاہ صاحب محض جھوٹ کے سارے سے اپنی کوڑ مغزی پر پردہ ڈال رہے ہیں اور وہ نہ صرف دروغ گو ہیں بلکہ سخت دروغ گو ہیں۔“ (نزول المسیح، ص ۳۲، مصنفہ مرزا قاریانی)

تو پھر آ جاتا نہ شاہی مسجد میں مقابلے کے لیے! (ناقل)

○ ”ایسا شخص بڑا خبیث اور پلید اور بد ذات ہو گا۔“ (حقیقت الوحی، ص ۱۰۷، مصنفہ مرزا قاریانی)

یعنی تمہ جیسا۔ (ناقل)

○ ”دشمنوں کے منہ پر طمانچے مارے ہیں مگر عجیب بے حیا منہ ہیں کہ اس قدر طمانچے کھا کر پھر سامنے آتے ہیں۔ (حاشیہ تہ حقیقت الوحی، ص ۱۳۹، مصنفہ مرزا قاریانی)

کیوں اپنے منہ کا تعارف کرا رہے ہو۔ (ناقل)

○ ”تیرا نفس ایک خبیث گھوڑا ہے، اے حرامی لڑکے۔“ (حقیقت الوحی، ص ۱۳۵، مصنفہ مرزا قاریانی)

اے اپنے چھوٹوں کا تو لحاظ کر۔ (ناقل)

○ ”اے لاف گزارف کے بیٹے تو کیا فبی ہے۔“ (براہین احمدیہ، ص ۱۳۹، ج ۵، مصنفہ مرزا قاریانی)

خود کلامی۔ (ناقل)

○ ”کیا تو صبح کو الو کی طرح اندھا ہو جاتا ہے۔۔۔ اور تو کیا چیز ہے صرف ایک کیرا۔ اے دروغ آراستہ کرنے والے۔“ (براہین احمدیہ، ص ۲۸۵، ج ۵، مصنفہ مرزا قاریانی)

مصنفہ مرزا قاریانی

آنکھیں تو ویسے آپ کی بھی تقریباً دونوں بند تھیں۔ (ناقل)

○ ”پھر بہت کوشش کے بعد ایک بھیڑیے کو لائے اور مراد ہماری اس سے نثار اللہ ہے۔“ (اعجاز احمدی، ص ۳۹، مصنفہ مرزا قاریانی)

لگتا ہے مولانا نثار اللہ امرتسری تجھے خوابوں میں بھی ڈراتے تھے۔ (ناقل)

○ ”ایک فحول (مولانا نثار اللہ) کے وعظ سے وہ پنگ کی طرح ہو گئے۔۔۔۔۔۔ نثار اللہ جو ہوا و ہوس کا بیٹا تھا۔۔۔۔۔۔ حالانکہ نثار اللہ کو علم و ہدایت سے ذرہ مس نہیں۔ پس تعجب ہے اس پھمپر کہ گرمس بنا چاہتا ہے۔“ (اعجاز احمدی، ص ۳۳، مصنفہ مرزا قاریانی)

پھمپر گرمس بنے تو تعجب اور تو نبی بنے تو کوئی تعجب نہیں۔ (ناقل)

اب ہم مرزا قاریانی کی گالیوں کی لغت آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں جو حروفِ جمعی کے لحاظ سے آپ کے سامنے حاضر ہے۔ یاد رہے کہ ہم اس لغت کو آپ کی خدمت میں انتہائی مختصر کر کے پیش کر رہے ہیں۔ اگر ہم اختصار سے کام نہ لیتے تو ہم لکھتے لکھتے تھک جاتے اور آپ پڑھتے پڑھتے ٹوٹ جاتے۔ لہذا گہرائی نہیں پڑھنا شروع کیجئے۔

(الف) اے زود رنج، اے بد قسمت بد گمانو، اے مردار خور مولویو، اندھیرے کے کیزو، اندھے مولوی، اے اندھو، اے بد ذات، اے غبیث، اے پلید و جال، ان احمقوں، اے نادانوں، آنکھوں کے اندھو، اسلام کے عار مولویو، احمق، اے نابکار، اے بد ذات فرقہ مولویان، اعداء الاعداء، امام التکبرین، اعمی، افوی، انعام، استخوان فروش، اے بد بخت قوم، اے ست ایمانو، الو، ایما الغوی، ایمان و دیانت سے عاری، اس فرمایہ، اے دیو، ان شریروں، آگ کے لاد و ٹٹوؤں، اے دروغ گو، ایما الجبول، ابلہ، اے مردار، اے احمق، اسلام کے دشمنو، ابولہب، اے شریر مولویو، اسلام کے عار، امام الفتن، اول درجہ کا منکبر، انسانوں سے بدتر اور پلید تر، اسلام کے دشمن، اسلام کے بدنام کرنے والے، اے بد بخت مفتریو، اے ظالم مولویو، ایما الکذیبون الخالون، اے شیخ احمقان، ایما الشیخ الغفال، اے بد قسمت انسان، اول درجہ کے کاذب، اے اس زانہ کے ننگ اسلام مولویو، اے کوتاہ نظر مولوی، اے نفسانی مولویو، اے خشک

مولوی، اے اندھے، اے دیوانہ، اے دروغ آراستہ کرنے والے، اے غبی، اے مسکین انسانیت کے پیرایہ سے بے بہرہ اور برہنہ، اکثر ہاڑ، اے بے ایمانو۔

(ب) بد اخلاقی اور بد ظنی میں فرق ہونے والو، بد قسمت، بد گمانو، بدتر، بد بخت مولویوں، بیوقوف اندھے، بے ایمان، بد ذات، بے نصیب، بد گوہر، بیوقوفوں، بندروں، باطل پرست بطلوی، بطلال، بد ذات مولوی، بیہودہ بد قسمت انسان، بد قسمت ایڈیٹر، بے حیا، بد معاش، بد گو، بد کار آدمی، برہنہ، بھیڑیے، پھو، بے شرم، بالکل جاہل، بالکل بے بہرہ، بد اطوار، بخیل، بد خلق، بے ایمانو، بے عزتوں، بخیل طبع مولویوں، بد بخت، بدنا خبیث، بخیلوں، بد بخت جموٹوں، پیراہ، بے خوف۔

(پ) پلید ملاؤں، پلید طبع مولوی، پلید تر، پلید جاہلوں، پلید دل مولوی، پلید دجال، پلید آدمی، پاگل، پر بدعت زاہد، پلیدوں۔

(ت) متقہ سے سخت بے بہرہ، تجھ سا زیادہ بد بخت کون، تو صبح کو الو کی طرح اندھا ہو جاتا ہے، تو ملعون، تجھ پر ویل، تکبر کا کیرا، تمہاری ایسی تھمسی ہے، تکفیر کا بانی، تقویٰ و دیانت سے دور، تزویر و تلیس۔

(ث) ثناء اللہ کو علم اور ہدایت سے ذرہ مس نہیں، ثناء اللہ تجھے جھوٹ کا دودھ پلایا گیا ہے۔

(ج) جاہل مولویوں، جاہل سجادہ نشین، جملاء، جھوٹے، جنگل کے وحشی، جھوٹا، جاہل، جارحوی، جاہلین، جانور، جاہل مخالف، جنگلوں کے غول، جلد باز مولویوں، جھوٹوں، جاہل اخبار نویس، جھوٹ کا گویہ کھایا، جاہلوں، جھوٹ بولنے کا سرغنہ۔

(چ) چارپائے ہیں نہ آدمی، چارپایوں، چالباز، چالاک حاسدوں۔

(ح) حرامی، حرامزادہ، حرامی لڑکے، حق پوش، حیوانات، حاسدوں، حریص، حرص کے جنگل کے شیطان، حرص کی وجہ سے مکار، حلال زادہ نہیں، حاطب ایل، حق کے مخالف۔

(خ) خبیث طبع مولوی، خنزیر سے زیادہ پلید، خبیث طبع، خالی گدھے، خبیث نفس،

خون پسند، خیانت پیشہ، خبیث طینت، خبیث فرقہ، خناسوں، خیس ابن خیس، خراب عورتوں کی نسل، خبیث النفس، خبیث القلب، خشک داغ، خدا کا ان مولویوں پر غضب ہوگا، خسر الدنیا والاخرہ، خبیث فطرت۔

(و) دل کے مہزوم، دجال، دشمن اللہ و رسول، دیانت و دین سے دور، دشمن عقل و دانش، دجال، دشمن دین مولوی، دروغ گو، دیوانہ، دنیا کے کیرے، دلوں کے اندھو، دروغ گو، مجرب، دروغی اختیار کرنے والا، دیو، درندوں، دابتہ الارض، دنیا کے کتے، دشمن حق، دجال اکبر، دشنام وہ، دل کے اندھے، دجال کے ہمراہیو، دیوثوں، دنیا پرست مولوی، دین فروش، دیوانہ، درندوں، درندہ طبع، دجال فریہ، دروغ آراستہ کرنے والے، دل کے اندھے، دجال کمینہ۔

(ذ) ذلیل ملاؤں، ذلت کے سیاہ داغ، ذاب، ذرت شیطان، ذلت کی روسیاهی کے اندر غرق۔

(ر) رئیس الدجالین، رئیس المعتدین، راس الغادین، رئیس المتصنفین، رعایوں کی اولاد، رئیس الکبرین، رسول اللہ کے دشمن، روحانیت سے بے بہرہ۔

(ز) زیادہ پلید، زمانہ کے ظالم مولوی، زمانہ کے بدذات مولوی، زمانہ کے ننگ اسلام مولویو، زیادہ بد بخت۔

(س) سوروں، سیاہ داغ، سیاہ دل، سگان قبیلہ، سلطان الکبرین، سفہاء، سفہہ پن، سفیہوں کا نطفہ، سخت دل ظالم، سادہ لوح، سانپوں، سفلی مخلوقات، سخت جاہل، سخت نادان، سخت نالائق، سفہہ دشمن، سفہہ دشمنوں، سفیہ سخت دل مولویو، سخت ذلیل، سخت دروغ گو، ست ایمانو، سواد الوجہ فی الدارین، سڑے گلے مردہ (حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی یہ تعریف کی جا رہی ہے۔ معاذ اللہ) سخت بدذات، سخت بے باک، سوداگی، سخت دل قوم۔

(ش) شیطان، شتر مرغ، شیطین الانس، شریر مولوی، شیخ نجدی، شیخ احتقان، شیخ انصال، شیطان، شتی شغال، شیطننت کی بدبو، شیخ نامہ سیاہ، شریر، شیخ مغل، شیخ مزور، شیخی باز، شریروں، شریر بھیڑیے، شرابیوں، شیخ چلی کے بڑے بھائی، شریر مولویو، شیخ

ضال بطالوی، شیخ افسالہ، شیخ چالباز، شیاطین، شرے النفس، شرے پنڈت۔

(ص) صریح بے ایمانی۔

(ض) ضال بطالوی، ضال، ضلالت پیشہ۔

(ط) طوائف۔

(ظ) ظالم طمع، ظالم مولوی، ظالم مولویو، ظالم معترض، ظالموں، ظالم طمع مخالفوں۔

(ع) عیسم نعال لعن اللہ الف الف مو، عجا، عجب نادان، عجیب بے حیا، عورتوں کے عار، عدو اللہ، عہد الحق کا منہ کالا، علم اور درایت اور عقیدے سے سخت بے بہرہ۔

(غ) قالون، غوی فی ابطالہ، غادین، غول، غدار زانہ، غول البراری، غزنی کے ناپاک سکمو، غزنویوں کی جماعت پر لعنت۔

(ف) فقیری اور مولویت کے شتر مرغ، فرعون، نمت یا عبد الشیطان، فاسق آدمی، فریبی آدمی، فرومایہ، فتنہ انگیز مولوی۔

(ق) قوم کے خناسوں۔

(ک) کوتاہ اندیش علماء، کیڑو، کتے، کاذب، کج طبع، کوتاہ نظر مولوی، کوڑ مغز، کذاب، کیڑا، کینہ پرور کینگی، کم سمجھ، کجمل، کینوں، کینہ، کینہ طبع، کتوں، کاذب۔

(گ) گندے اخبار نویس، گندی روح، گدھے، گرفتار عجب و پندار، گمراہ، گدھوں، گندہ زبان، گرگ، گرمس، گندہ پانی، گمراہی کے جنگل کے شیطان، گمراہ۔

(ل) لٹھوں، لاف و گزاف کے بیٹے، لادہ ٹٹوں۔

(م) مغرور فقراء، مردار خور مولوی، مولوی جاہل، مولویت کے بدنام کرنے والے، منحوس چروں، مفسرین، منافق مولوی، مولویان خشک، متکبرین، مجتہدین، ملعونین، مفسدین، معلم الملکوت، مفسری، مردار، ملعون، مفسد، متعصب نادان، مفسری نابکار، متعفن، مسکین، مار سیرت، مفضل جماعت، مچھر، مٹی سیاہ، مردک، متعصب، متکبر مولویوں مفضل، مزدور، مفسرینت مولویوں، مجبٹ الحواس، مردہ پرست، مردار، مکار، معذول۔ موٹی سمجھ

مولوی انسانوں سے بدتر اور پلید، مخالفوں کا منہ کالا، مولویوں کا منہ کالا، مولوی سخت ذلیل، مکذوب، منحوس، مغرور، معمولی انسان، مجنون درغل، محبوب مولوی۔

(ن) نیم ناقص العقل، ناحق شناس، نادان علماء، ٹپاک طبع مولویوں، نادان علماء، نااہل مولویوں، ناسمجھ، نابکار، نادان، ناپینا علماء، نادان بطالوی، نالائق مولویوں، نفاق زندہ مولوی، نالائق نذیر حسین، نیم ملا، ننگ اسلام مولوی، نجاست خور، نفسانی مولوی، نالائق، نادان مولوی، نادانوں، ناقص الفہم، نابکاروں، نیم عیسائی، ناخدا ترس، نادان ہند و زاہد، نہایت پلید طبع، ناسعدت نمد شاگرد محمد حسین، ناپینا، نذیر حسین خشک معلم، نادان صحابی، نادان قوم، ناقص العقل چیلوں، نالائق چیلوں، نادان غبی، ٹپاک فرقہ، نادان پادریوں، نالائق متعصب۔

(و) وہ گندے اخبار نویس، وہ گدھا ہے نہ انسان، وحشی، وہ بد ذات، ہوا و ہوس کا بیٹا، واشی، والنسی، المغضول، ولد الحرام، ولد الحلال نہیں، واہ رے شیخ چلی کے بڑے بھائی، وحشی فرقہ، والد جال ابطل۔

(ہ) ہامان، ہندو زاہد، ہزار لعنت کا رس، ہٹ دھرم، ہماری قوم کے اندھو، چوکرگ، پھو جنین۔

(یے) یہودی صفت مولوی، یادہ گو، یہودی سیرت مولوی، یہ شیخ منافق، یہ نادان خون پسند، یہ لوگ حیوانات، یہودی، یا شیخ الضلالہ، یک چشم مولویوں، یا جوج یہ اندھے مولوی، یہ جملاء، یہودیت کا خمیر، یہ دل کے مجذوم، یہ سب مولوی جاہل، یہ شرے مولوی، یہ سیاہ دل، یہ جاہل یہ منافق مولوی، یا غول البراری۔

جب اتنی گالیاں بکنے کے باوجود مرزا قادیانی کا اہلنا ہوا دل ٹھنڈا نہ ہوا تو وہ ایک دن شیطانی جوش میں کانڈوں کا دستہ اور اپنا بد معاش قلم لے کر بیٹھا اور لعنت، لعنت لکھنا شروع کی۔ قلم کے منہ سے نکلتے زہر سے کانڈ پر لعنت ہی لعنت بکھرتی گئی۔ کئی پر لکھنے کے بعد گالیوں کے عالمی پیپسین مرزا قادیانی نے ایک ہزار لعنت مکمل کر دی۔ مزے کی بات یہ کہ ہر لعنت کے اوپر اس کا نمبر بھی ڈالتا گیا۔ گویا اس نے لعنت کا رجسٹریشن آفس قائم کر رکھا تھا۔ ملاحظہ فرمائیے!

اے مرزا قادیانی! اگر اپنے مخالفوں پر لعنت بھیجتا تیرے لیے اتنا ہی ضروری تھا تو تو خراخواہ اتنے پہروں قلم کو گھینتا اور دماغ کو پیٹتا رہا اور پھر کہیں جا کر ہزار مرتبہ لعنت مرتب کی۔ تجھ سے سمجھ دار تو وہ خاکروب عورتیں ہیں جو کبھی آپس میں جھگڑ پڑتی ہیں تو فوراً ایک دوسری کو کہتی ہے ”جاتیرے تے لکھ لعنت“ اور پھر اگلے لمحے جھاڑو پھیرنے میں مصروف ہو جاتی ہے۔ یعنی انتہائی مختصر وقت میں اتنی بڑی لعنت ڈال کر فارغ ہو جاتی ہے اور تو صرف ایک ہزار لعنت ڈالنے میں اتنا وقت صرف کرتا رہا۔ ہت تیرے کی!

اتنی گالیاں بکنے کے باوجود، اتنی غلاطت اگلتے کے باوجود مجسمہ اخلاق بھی بننا تھا اور پیکر پارسائی بھی کھلواتا تھا۔ وہ معلم اخلاق بھی بننا تھا اور اپنی زبان سے پند و نصائح بھی جاری رکھتا تھا۔ لیکن اخلاق و مروت پر اس کا لیکچر جھاڑنا ایسے ہی تھا جیسے کوئی رنڈی عصمت نسواں پر تقریر کرے۔ جیسے چنگیز خان رحم دلی پر درس دے۔ جیسے ابو جہل حقانیت اسلام پر دلائل دے اور جیسے راجپال ناموس رسول پر خطابت کے جوہر دکھائے۔

اللہ رے اسیری بلبل کا اہتمام

سیاد عطر مل کے چلا ہے گلاب کا

اب اس سلسلہ میں مرزا قادیانی کے چند اقوال ملاحظہ فرمائیے۔

○ ”اخلاقی معلم کا یہ فرض ہے کہ پہلے اپنے اخلاق کریمہ دکھلاوے۔“ (”چشمہ مسیحی“ ص ۹، مصنفہ مرزا قادیانی)

ویسے تو نے اپنے اخلاق رنڈیہ خوب دکھلائے ہیں۔ (ناقل)

○ ”لعنت بازی صدیقیوں کا کام نہیں۔ مومن لعان (لعنت بھیجنے والا) نہیں ہوتا۔“ (”ازالہ“ ص ۶۶۰، مصنفہ مرزا قادیانی)

○ ”درست کہا، لعنت بازی صدیقیوں کا کام نہیں بلکہ زندگیوں کا کام ہے اور تم نے زندگیوں کے منصب پر بیٹھ کر یہ کام خوب نبھایا۔“ (ناقل)

○ ”تحریر میں سخت گالیاں دینا۔ اور بدزبانی کرنا اور اپنے مخالفانہ جوش کو انتہا تک پہنچانا۔ کیا اس عادت کو خدا پسند کرتا ہے یا اس کو شیوہ شرفا کہہ سکتے ہیں؟

(”آسانی فیصلہ“ ص ۹، مصنفہ مرزا قادیانی)

ایسا کرنا شیوہ بد معاشاں ہے اور تم خوب بد معاش ٹھہرے، جس کی زبان زہرناک سے خدا اور نبی کریمؐ بھی محفوظ نہ رہے۔ (ناقل)

○ ”میری فطرت اس سے دور ہے کہ کوئی تلخ بات منہ پر لاؤں“ (”آسانی فیصلہ“ ص ۱۰، مصنفہ مرزا قادیانی) تمہارے منہ پر ساری زندگی تلخی کے سوا رہا ہی کیا ہے؟ (ناقل)

○ ”خداوند قادر و قدوس میری پناہ ہے اور میں تمام کام اسی کو سونپتا ہوں اور گالیوں کے بدلے گالیاں دینا نہیں چاہتا اور نہ کچھ کہنا چاہتا ہوں۔“ (”آسانی فیصلہ“ ص ۳۲۵، مصنفہ مرزا قادیانی)

شیطان اس کو دیکھ کر کہتا تھا رشک سے ہازی یہ مجھ سے لے گیا تقدیر دیکھئے (ناقل)

○ ”میں سچ سچ کہتا ہوں۔ جہاں تک مجھے علم ہے میں نے (اپنی تالیف میں) ایک لفظ بھی ایسا استعمال نہیں کیا جس کو دشنام دہی کہا جائے۔“ (”ازالہ“ جلد اول، ص ۶، مصنفہ مرزا قادیانی)

گالی کو گالی نظر نہیں آتی۔ (ناقل)

○ ”میں محض نصیحتاً اللہ مخالف علما اور ان کے ہم خیال لوگوں کو کہتا ہوں کہ گالیاں دینا اور بدزبانی کرنا طریق شرافت نہیں ہے۔“

طریق شرافت کے مبلغ! کسی کی ماں بہن تو تیری زبان سے محفوظ نہ رہی۔ (ناقل)

بدتر ہر ایک بد سے ہے جو بدزبان ہے
جس دل میں یہ نجاست بیت الخلاء بھی ہے

(”در خمین“ اردو ص ۷۸، از مرزا قادیانی)

بہت خوب اپنا تعارف خود ہی کرا دیا۔

الجما ہے پاؤں یار کا زلف دراز میں
لو آپ اپنے دام میں صیاد آ گیا

(ناقل)

○ ”بدی کا جواب بدی سے مت دو۔ قول سے نہ فعل سے۔“ (”نسیم دعوت“ ص ۳، مصنفہ مرزا قاریانی)

ع تیرے ہر قول سے پناہ تیرے ہر فعل سے اماں۔ (ناقل)

○ ”غلط بیانی اور بہتان طرازی راست بازوں کا کام نہیں بلکہ نہایت شرے اور بدذات آدمیوں کا کام ہے۔“ (”آریہ دھرم“ ص ۳۳، مصنفہ مرزا قاریانی)

اس تعریف کی رو سے تم کیا ٹھہرے؟ خود ہی بتاؤ۔ (ناقل)

گالیاں سن کے دعا دیتا ہوں ان لوگوں کو

رحم ہے جوش میں اور غیظ گھٹایا ہم نے

(”دافع الوسوس“ ص ۲۲۵، مصنفہ مرزا قاریانی)

شاید تمہاری لغت میں گالی کو دعا اور دعا کو گالی کہتے ہیں۔ (ناقل)

○ ”خبردار! نفس تم پر غالب نہ آوے۔ ہر ایک سختی کو برداشت کرو۔ ہر ایک

گالی کا نرمی سے جواب دو۔“ (”نسیم دعوت“ ص ۳، مصنفہ مرزا قاریانی)

اور خود تمہارے نفس نے ساری زندگی تم پر سواری کی۔ (ناقل)

○ ”گالیاں دینا سفلوں اور کینوں کا کام ہے۔“ (”ست بچن“ ص ۲۹، مصنفہ

مرزا قاریانی)

”سفلوں“ اور ”کینوں“ کی جگہ اگر اپنا نام لکھ دیتے تو زیادہ وضاحت ہو

جاتی۔ (ناقل)

اب ایک اور پہلو پر نظر ڈالیے۔

○ ”اگر تو نرمی کرے گا تو میں بھی نرمی کروں گا۔ اگر تو گالی دے گا تو میں

بھی گالی دوں گا۔“ (”حجتہ اللہ“ ص ۳۳، مصنفہ مرزا قاریانی)

پہلے کون سی کسر اٹھا رکھی ہے تو نے مسٹر گالی گلوچ! (ناقل)

○ ”کوئی ثابت نہیں کر سکتا کہ میں نے کسی مخالف کی نسبت اس کی بدگوئی

سے پہلے خود بدزبانی میں سبقت کی ہو۔“ (”تمتہ حقیقت الوحی“ ص ۲۱، مصنفہ مرزا

قاریانی)

چلو شکر ہے تم نے اپنی بدزبانی کو قبول تو کیا ہے۔ (ناقل)

اب ایک اور پہلو پر نگاہ ڈالیے۔

○ ”میں وہی کہتا ہوں جو خدا نے میرے منہ میں ڈالا ہے۔“ (”حاشیہ براہین

احمدیہ“ ج ۵، ص ۱۱، مصنفہ مرزا قادیانی)

”لکھ دی لعنت“ (ناقل)

○ ”یہ بات بھی اس جگہ بیان کر دینے کے لائق ہے کہ میں (مرزا) خاص طور

پر خدا تعالیٰ کی اعجاز نمائی کو انشاء پر دازی کے وقت بھی اپنی نسبت دیکھتا ہوں۔ کیونکہ

جب میں عربی اردو میں لکھتا ہوں تو میں محسوس کرتا ہوں کہ کوئی اندر سے مجھے تعلیم

دے رہا ہے۔ (”نزل المسیح“ ص ۵۶، مصنفہ مرزا قادیانی)

”در تلے منہ“ (ناقل)

○ ”میں وہ آئینہ ہوں جس میں محمدی شکل اور محمدی نبوت کا کامل انعکاس

ہے۔“ (”نزل المسیح حاشیہ“ ص ۲، مصنفہ مرزا قادیانی)

کبھی تو شرم کر لیا کر اے بے حیا! (ناقل)

○ ”اور جو شخص مجھ میں اور مصطفیٰ میں تفریق پکڑتا ہے، اس نے مجھ کو

نہیں دیکھا ہے اور نہیں پہچانا ہے۔“ (”خطبہ الہامیہ“ ص ۱۵۱، مصنفہ مرزا قادیانی)

کبھی تو نے آئینہ میں اپنی شکل دیکھی تھی۔ تیری شکل دیکھ کر مجید لاہوری کا وہ

شعر یاد آتا ہے۔

خرس کا سر، شکل بندر کی، منہ خنزیر کا

ایک پہلو یہ بھی ہے انسان کی تصویر کا (ناقل)

مسلانہ! اگر یہ شخص صرف گالی باز ہوتا تو ہم اس سے صرف نظر کرتے۔

اگر یہ صرف فحش گو اور بدگو ہوتا تو ہم اس کی بدگوئی کو سنی ان سنی کر دیتے۔ اگر یہ

کسی دنیاوی لالچ میں کوئی محفل سجا کر وہاں بکواس بازی اور پھلڑ بازی کرتا تو شاید ہم

ان زہرناک باتوں کا کوئی نوٹس نہ لیتے۔ لیکن مسئلہ نازک یہ ہے کہ یہ شخص مدعی

نبوت ہے۔ اپنی نبوت کو محمدی نبوت کہتا ہے (نعوذ باللہ) اپنے وجود کو وجود محمدؐ کہتا

ہے۔ (نعوذ باللہ)۔ اپنی صورت کو صورت محمدؐ قرار دیتا ہے (نعوذ باللہ)۔ اپنی

بکواسیات والی زبان کو زبان محمدیؐ کہتا ہے (نعوذ باللہ)۔ اپنی لغو باتوں کو احادیث

محمدی کتا ہے (نعوذ باللہ) — اپنے خود ساختہ مذہب کو اسلام کا نام دتا ہے (نعوذ باللہ) — خاتم النبیین فدائے امی و ابی کے تخت ختم نبوت پر بیٹھنے کی ناپاک جسارت کرتا ہے (نعوذ باللہ) — تاج ختم نبوت اپنے غلیظ سر پر رکھنے کی غلیظ جسارت کرتا ہے (نعوذ باللہ) — ختم نبوت کی خلعت فاخرہ اپنے ارتدادی جسم پر پہننے کی ارتدادی جسارت کرتا ہے۔ (نعوذ باللہ) — یہ سب کچھ ہمارے پیارے آقا کی نبوت پر ایک وحشت ناک حملہ ہے — جو دین اسلام کے سارے نظام کو تہہ و بالا کر دتا ہے — یہ جعلی نبی اسلام کی نمائندگی کر کے ساری دنیا میں اسلام کو رسوا کر دتا ہے — اس لیے مسلمانو! اس شخص اور اس کے فتنہ کا راستہ روکنا ہر مسلمان کا اولین فرض ہے — اور اس فرض سے غفلت کائنات کا بدترین گناہ ہے — اس فرض سے غفلت اللہ اور اس کے پیارے حبیب جناب محمد مصطفیٰ فدائے روحی و جسدی سے اعلان لاتعلقی کے مترادف ہے —

مسلمانو! آؤ اپنے آپ کو اس جہاد کی صفوں میں کھڑا کر کے شفاعت محمدیؐ کو اپنی جانب متوجہ کریں — اور حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام سے ایک مضبوط تعلق پیدا کر لیں — کیونکہ یہی عظیم تعلق ہماری اول و آخر پہچان ہے —

رشتہ نہ جو قائم ہو محمدؐ سے وفا کا
پھر جینا بھی برباد ہے مرنا بھی اکارت

صاحبو! حضرت یوسف علیہ السلام کے دور میں مصر میں قحط پڑا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنی حکمت و دانائی سے غلہ کا ایک بہت بڑا ذخیرہ محفوظ کر رکھا تھا۔ جب بھوکے لوگوں کی صدا بلند ہوئی تو حضرت یوسف علیہ السلام نے ملک بھر میں اعلان کرا دیا کہ جسے غلہ کی ضرورت ہو، وہ میرے ذخیرے سے مفت غلہ حاصل کر سکتا ہے۔ یہ روح افزا اعلان سنتے ہی لوگ حضرت یوسف علیہ السلام کی طرف چل دیے۔ جو بھی سائل آتا، جناب یوسف علیہ السلام ایک پیانے سے ماپ ماپ کر سب کو غلہ دیتے اور خالی دامن جمولیاں بھر کے خوشی خوشی واپس لوٹتے۔ یہ سلسلہ عنایت جاری تھا کہ ایک شخص آیا اور آکر غلہ طلب کیا۔ جناب یوسف علیہ السلام نے اسے پیانے سے ماپ کر غلہ دے دیا۔ غلہ لینے کے بعد اجنبی نے مزید غلہ کا سوال کیا۔ حضرت

یوسف علیہ السلام نے اسے کہا کہ تمہیں تمہارا حصہ مل چکا۔ اجنبی نے حضرت یوسف علیہ السلام کو مخاطب کرتے ہوئے کہا:
 ”اے یوسف! اگر میں تجھے بتا دوں کہ میں کون ہوں تو تو مجھے یہ سارا غلہ دے دے۔“

”بھائی تو کون ہے؟“ حضرت یوسف علیہ السلام نے پوچھا۔
 ”اے یوسف! میں وہ بچہ ہوں جس نے پنگوڑے میں تیری گواہی دی تھی، جب زلیخا نے تجھ پر الزام لگایا تھا۔“ اجنبی نے جواب دیا۔
 یوسف علیہ السلام خوشی سے جموم اٹھے اور اپنے کارندوں سے کہا ”اس کے لیے گودام کے سارے دروازے کھول دو اور یہ جو کچھ لے جانا چاہے لے جائے دو۔“

جب یوسف علیہ السلام نے یہ بات کہی تو اللہ پاک نے فوراً جبرائیل امین کو وحی دے کر بھیج دیا کہ جاؤ میرے یوسف سے کہہ دو کہ یوسف جو تیری گواہی دے تو خوش ہو کر اسے غلے کا سارا ذخیرہ دینے کے لیے تیار ہے اور جو مجھ اللہ تعالیٰ کی گواہی دے میں خوش ہو کر اسے کس کس انعام سے نوازوں گا۔“

ساتھیو! ایک قحط یوسف علیہ السلام کے دور میں پڑا تھا اور ایک قحط حشر کے میدان میں پڑے گا۔ یہ قحط یوسف علیہ السلام کے قحط سے اربوں گنا زیادہ بڑا ہوگا۔ وہاں شدید بھوک ہوگی۔ بڑی شدید پیاس ہوگی۔ شدت بھوک سے انسان اپنا گوشت کہنیوں تک کھا جائیں گے۔ پورے میدان حشر میں العطش العطش کی صدا ہوگی۔ زبانیں سوکھ کر کانٹا بن جائیں گی۔ وہاں کوئی شدت بھوک اور شدت پیاس سے مر بھی نہ سکے گا۔ مصر کے قحط میں تقسیم کے لیے حضرت یوسف علیہ السلام ہیں اور اس قحط میں تقسیم کے لیے حوض کوثر پر تاجدار ختم نبوت جناب محمد رسول اللہ ہوں گے۔ مصر کے قحط میں جو یوسف علیہ السلام کی گواہی دے، اس کے لیے سب کچھ حاضر ہے۔ اور اس قحط میں جس نے تاجدار ختم نبوت کی اس دنیا میں ختم نبوت کی گواہی دی ہوگی، اس کے لیے کیسے کیسے انعامات حاضر ہوں گے؟

اگر اللہ کے نبی جناب یوسف علیہ السلام اپنی گواہی دینے والے پر اتنے احسانات کی بارش کرتے ہیں تو سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ختم نبوت کی گواہی دینے والے پر سرور کون و مکان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احسانات کا معیار کیا ہوگا۔

آقائے نامدار ساقی کوثر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں حوض کوثر پر بیٹھوں گا اور جام کوثر تقسیم کروں گا اور جو کوئی میرے حوض کوثر سے ایک جام پی لے گا دوبارہ اسے پیاس نہیں لگے گی۔

رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ حشر کے روز اللہ تعالیٰ مجھے منصب شفاعت پر فائز کرے گا۔ میں جس کی شفاعت کروں گا اللہ پاک اسے قبول کرے گا۔ جس خوش قسمت کو پروانہ شفاعت مل جائے گا اسے پروانہ جنت مل جائے گا جہاں جنت کی نعمتیں اس کے لیے چشم براہ ہوں گی۔ انشاء اللہ ان دو عظیم جگہوں پر سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی ختم نبوت کے پروانوں یعنی ختم نبوت کے گواہوں کو ضرور پہچانیں گے اور ان کی مہمانداری کریں گے۔

صاحبو! آؤ ہم بھی ختم نبوت کی گواہی دیں — ختم نبوت کی منادی کریں — اپنے گھر میں — اپنے محلہ میں — اپنے گاؤں میں — اپنی بہتی میں — اپنے قصبہ میں — اپنے شہر میں — اپنے ملک میں — سارے ملکوں میں — سارے عالم میں کیونکہ یہ بڑے اعزاز کا کام ہے۔ یہ بڑا اعلیٰ و ارفع کام ہے کیونکہ —

اللہ تعالیٰ خود ختم نبوت کا گواہ ہے —

ہر نبی ختم نبوت کا گواہ ہے —

ہر رسول ختم نبوت کا گواہ ہے —

ہر آسمانی کتاب ختم نبوت کی گواہ ہے —


ہر صحابی ختم نبوت کا گواہ ہے —

ہر مومن ختم نبوت کا گواہ ہے —

ساتھیو! آؤ ہم بھی گواہی دیں — اپنی زبان سے — اپنے قلم سے — اپنے مال سے — اپنی اولاد سے — اور کبھی میدان جہاد میں شہادت کی سرخ قبا

پہن کر اپنے خون سے یہ گواہی دے دیں—
 لگتا ہوں خون دل سے یہ الفاظ احمس
 بعد از رسول ہاشمی کوئی نبی نہیں





مخبر

اسرارِ قیوم
کتاب ہے

○ قادیانی شکاری جب اپنے ارتدادی شکار پر نکلتے ہیں اور کسی مسلمان کو اپنے جال میں پھسانے کی کوشش کرتے ہیں تو وہ مسلمان کتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری نبی ہیں اور ان کے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا جبکہ مرزا قادیانی مدعی نبوت ہے۔ اس لیے مرزا قادیانی کافر ہے۔

اس کی یہ بات سن کر قادیانی شکاری میٹھی میٹھی ہنسی ہنپتے ہیں اور منہ بنا بنا کر بڑے ملامت لہجے میں اسے کہتے ہیں کہ بھائی۔۔۔۔۔۔ تو بہ تو بہ۔۔۔۔۔۔ مرزا قادیانی نے قطعاً نبوت کا دعویٰ نہیں کیا اور نہ ہم اسے نبی مانتے ہیں۔ ہم تو مرزا قادیانی کو ایک ”بزرگ“ اور ”پیر“ مانتے ہیں۔ جس طرح آپ لوگوں کے بزرگ اور پیر ہوتے ہیں۔ اسی طرح مرزا قادیانی ہمارا بزرگ اور پیر ہے۔ جس طرح آپ اپنے بزرگ کی بیعت کرتے ہیں اسی طرح ہم بھی اپنے بزرگ مرزا قادیانی کی بیعت کرتے ہیں۔

وہ مسلمان کتا ہے کہ آپ نے مسلمانوں سے الگ اپنی ایک جماعت بنا رکھی ہے۔ جو ابا قادیانی شکاری کہتے ہیں کہ ہماری مسلمانوں سے الگ کوئی جماعت نہیں۔ جس طرح آپ کے ہاں مختلف سلسلے ہیں جیسے سلسلہ قادریہ، سلسلہ نقشبندیہ، سلسلہ سروردیہ، سلسلہ چشتیہ وغیرہم۔ اسی طرح ہمارا بھی سلسلہ ہے جسے ”سلسلہ احمدیہ“ کہتے ہیں۔

اکثر مسلمان ان کی باتوں سے مطمئن ہو جاتے ہیں اور ان گستاخان رسول سے ان کی نفرت کلاوا کچھ ٹھنڈا ہو جاتا ہے اور قادیانی مسلم معاشرے میں اپنے لیے کچھ جگہ بنا لیتے ہیں۔

لیکن مسلمانو! یہ قادیانیوں کا بہت بڑا فراڈ ہے۔۔۔۔۔۔ مرزا قادیانی مدعی نبوت ہے اور اس نے ایک مرتبہ نہیں بلکہ سینکڑوں مرتبہ اعلان نبوت کیا ہے۔ ہمارے پاس اس کے بین ثبوت موجود ہیں۔۔۔۔۔۔ ہاں۔۔۔۔۔۔ یہ نکتہ بھی یہاں بتاتا جاؤں کہ مرزا قادیانی کا بزرگ ہونا تو بڑی دور کی بات ہے، مرزا قادیانی کو مسلمان ماننا بھی کفر ہے۔ اب ہم آپ کی خدمت میں بطور ثبوت مرزا قادیانی کے چند حوالے پیش کرتے ہیں۔ جن میں اس نے کھلم کھلا اپنی نبوت کا اعلان کیا ہے۔

○ ”جس بناء پر میں اپنے تئیں نبی کہلاتا ہوں، وہ صرف اس قدر ہے کہ میں خدا تعالیٰ

سے ہم کلامی سے مشرف ہوں اور وہ میرے ساتھ بکفرت بولتا اور کلام کرتا ہے اور میری باتوں کا جواب دیتا ہے اور بہت سی غیب کی باتیں میرے پر ظاہر کرتا ہے اور آئندہ زمانوں کے وہ راز میرے پر کھولتا ہے کہ جب تک انسان کو اس کے ساتھ خصوصیت کا قرب نہ ہو، دوسرے پر وہ اسرار نہیں کھولتا اور ان ہی امور کی کثرت کی وجہ سے میرا نام نبی رکھا گیا ہے۔ سو میں خدا کے حکم کے موافق نبی ہوں اور اگر میں اس سے انکار کروں تو میرا گناہ ہو گا اور جس حالت میں خدا میرا نام نبی رکھتا ہے، تو میں کیوں کر انکار کر سکتا ہوں۔ میں اس پر قائم ہوں۔ اس وقت تک جو دنیا سے گزر جاؤں۔“

(مرزا قادیانی کا خط، مورخہ ۲۳ مئی بنام اخبار عام لاہور، ”حقیقتہ النبوت“ ص

(۲۷۰-۲۷۱)

○ ”چند روز ہوئے ہیں کہ ایک صاحب پر ایک مخالف کی طرف سے یہ اعتراض پیش ہوا کہ جس سے تم نے بیعت کی ہے، وہ نبی اور رسول ہونے کا دعویٰ کرتا ہے اور اس کا جواب محض انکار کے الفاظ سے دیا گیا۔ حالانکہ ایسا جواب صحیح نہیں ہے..... ہو سکتا ہے کہ ایسے الفاظ موجود نہیں ہیں۔“

(”ایک غلطی کا ازالہ“ ص ۲، ”روحانی خزائن“ ص ۲۰۶، ج ۱۸، مصنفہ مرزا

قادیانی)

○ ”پس میں جب کہ اس مدت تک ڈیڑھ سو پیش گوئی کے قریب خدا کی طرف سے پاکر چشم خود دیکھ چکا ہوں کہ صاف طور پر پوری ہو گئیں تو اپنی نسبت نبی یا رسول کے نام سے کیونکر انکار کر سکتا ہوں اور جب کہ خود خدا تعالیٰ نے یہ نام میرے رکھے ہیں تو میں کیونکر رو کر دوں.... یا اس کے سوا کسی دوسرے سے ڈروں۔“

(”ایک غلطی کا ازالہ“، ”روحانی خزائن“ ص ۲۱۰، ج ۱۸، مصنفہ مرزا قادیانی)

○ ”اور خدا تعالیٰ نے اس بات کے ثابت کرنے کے لیے کہ میں اس کی طرف سے ہوں اس قدر نشان دکھلائے ہیں کہ اگر وہ ہزار نبی پر بھی تقسیم کیے جائیں تو ان کی بھی ان سے نبوت ثابت ہو سکتی ہے..... لیکن پھر بھی جو لوگ انسانوں میں سے شیطان ہیں، وہ نہیں مانتے۔“

۱، ”چشمہ معرفت“ ص ۳۱۷، ”روحانی خزائن“ ص ۳۳۲، ج ۲۳، مصنفہ مرزا قادیانی)

○ ”خدا نے میرے ہزار ہا نشانوں سے میری وہ تائید کی ہے کہ بہت ہی کم نبی گزرے ہیں جن کی یہ تائید کی گئی۔ لیکن پھر بھی جن کے دلوں پر مرس ہیں، وہ خدا کے نشانوں سے کچھ بھی فائدہ نہیں اٹھاتے۔“

(”تمہ حقیقتہ الوحی“ ص ۱۳۸ ”روحانی خزائن“ ص ۵۸۷، ج ۲۲، مصنفہ مرزا قادیانی)

○ ”اور میں اس خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں جس کے ہاتھ میں میری جان ہے کہ اسی نے مجھے بھیجا ہے اور اسی نے میرا نام نبی رکھا ہے اور اسی نے مجھے مسیح موعود کے نام سے پکارا ہے اور اس نے میری تصدیق کے لیے بڑے بڑے نشان ظاہر کیے ہیں جو تین لاکھ تک پہنچتے ہیں۔“

(”تمہ حقیقتہ الوحی“ ص ۶۸، ”روحانی خزائن“ ص ۵۰۳، ج ۲۲، مصنفہ مرزا قادیانی)

○ ”تیسری بات جو اس وحی سے ثابت ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ خدا تعالیٰ بہر حال جب تک طاعون دنیا میں رہے گا گو ستر برس تک رہے، قادیان کو اس خونناک تباہی سے محفوظ رکھے گا کیونکہ یہ اس کے رسول کا تخت گاہ ہے اور یہ تمام امتوں کے لیے نشان ہے.... سچا خدا وہی ہے جس نے قادیان میں اپنا رسول بھیجا۔“

(”دافع ابلا“ ص ۱۰-۱۱، ”روحانی خزائن“ ص ۲۳۱، ۲۳۰، ج ۱۸، مصنفہ مرزا قادیانی)

○ (”ایک انگریز اور لیڈی جو شکاگو سے قادیان آئے) ان کے اس سوال پر کہ آپ نے جو دعویٰ کیا ہے، اس کی سچائی کے دلائل کیا ہیں۔ مرزا صاحب نے فرمایا میں کوئی نیا نبی نہیں۔ مجھ سے پہلے سینکڑوں نبی آچکے ہیں..... جن دلائل سے کوئی سچا نبی مانا جا سکتا ہے وہی دلائل میرے صادق ہونے کے ہیں۔ میں بھی منہاج نبوت پر آیا ہوں۔“

(اخبار ”الحکم“ قادیان، مورخہ ۱۰ اپریل ۱۹۰۸ء ”ملفوظات“ ص ۲۱۷، ج ۱۰، منقول از اخبار ”الفضل“ قادیان، جلد ۲۲، نمبر ۸۵، مورخہ ۱۵ جنوری ۱۹۳۵ء)

○ ”میں کوئی نیا نبی نہیں ہوں پہلے بھی کئی نبی گزرے ہیں، جنہیں تم لوگ سچا مانتے

ہو۔“

(اخبار ”الفضل“ قادیان، جلد ۱۸، نمبر ۷، ص ۷، مورخہ ۱۵ جولائی ۱۹۳۰ء)

○ ”پس اس وجہ سے (اس امت میں) نبی کا نام پانے کے لیے میں ہی مخصوص کیا گیا اور دوسرے تمام لوگ اس نام کے مستحق نہیں..... اور ضرور تھا کہ ایسا ہوتا..... جیسا کہ احادیث صحیحہ میں آیا ہے کہ ایسا شخص ایک ہی ہوگا۔“

(”حقیقت الوحی“ ص ۳۹۱، ”روحانی خزائن“ ص ۴۰۷-۴۰۶، ج ۲۲، مصنفہ مرزا قادیانی)

○ ”اور میں جیسا کہ قرآن شریف کی آیات پر ایمان رکھتا ہوں۔ ایسا ہی بغیر فرق ایک ذرہ کے خدا کی اس کھلی وحی پر ایمان لاتا ہوں جو مجھے ہوئی ہے، جس کی سچائی اس کے متواتر نشانوں سے مجھ پر کھل گئی ہے اور میں بیت اللہ میں کھڑے ہو کر یہ قسم کھا سکتا ہوں کہ وہ پاک وحی جو میرے پر نازل ہوتی ہے، وہ اسی خدا کا کلام ہے جس نے حضرت موسیٰ اور حضرت عیسیٰ اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنا کلام نازل کیا تھا۔“

(”ایک غلطی کا ازالہ“ ص ۶، ”روحانی خزائن“ ص ۲۱۰، ج ۱۸، مصنفہ مرزا قادیانی)

○ ”میں خدا تعالیٰ کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ ان الہامات پر اسی طرح ایمان رکھتا ہوں جیسا کہ قرآن شریف اور خدا کی دوسری کتابوں پر اور جس طرح میں قرآن شریف کو یقینی اور قطعی طور پر خدا کا کلام جانتا ہوں۔ اسی طرح اس کلام کو بھی جو میرے پر نازل ہوتا ہے خدا کا کلام یقین کرتا ہوں۔“

(”حقیقت الوحی“ ص ۲۱۱، ”روحانی خزائن“ ص ۲۲۰، ج ۲۲، مصنفہ مرزا قادیانی)

○ ”میں خدا تعالیٰ کے ان تمام الہامات پر جو مجھے ہو رہے ہیں، ایسا ہی ایمان رکھتا ہوں کہ تورات اور انجیل اور قرآن مقدس پر ایمان رکھتا ہوں۔“

(”تبلیغ رسالت“ جلد ہشتم، ص ۶۴، اشتہار مورخہ ۴ اکتوبر ۱۸۹۹ء مجموعہ اشتہارات، ص ۱۵۴ ج ۳)

○ ”مجھے اپنی وحی پر ایسا ہی ایمان ہے جیسا کہ تورات اور انجیل اور قرآن مجید پر۔“

(”اربعین“ نمبر ۴، ص ۲۵، مصنفہ مرزا قادیانی)

○ ”حضرت مسیح موعود علیہ السلام اپنے الہامات کو کلام الہی قرار دیتے ہیں اور ان کا مرتبہ بلحاظ کلام الہی ہونے کے ایسا ہی ہے جیسا کہ قرآن مجید اور تورات اور انجیل کا۔“

(اخبار ”الفضل“ قادیان، جلد ۲۲، نمبر ۸۴، مورخہ ۱۳ جنوری ۱۹۳۵ء)

(”منکرین خلافت کا انجام“ ص ۳۹، مصنفہ جلال الدین قادیانی)

○ ”اور ہم اس کے جواب میں خدا تعالیٰ کی قسم کھا کر بیان کرتے ہیں کہ میرے اس دعویٰ کی حدیث بنیاد نہیں بلکہ قرآن اور وحی ہے جو میرے پر نازل ہوئی۔ ہاں تائیدی طور پر ہم وہ حدیثیں بھی پیش کرتے ہیں جو قرآن شریف کے مطابق ہیں اور میری وحی کے معارض نہیں اور دوسری حدیثوں کو ہم ردی کی طرح پھینک دیتے ہیں۔“

(”اعجاز احمدی“ ص ۳۰، ”روحانی خزائن“ ص ۱۳۰، ج ۱۹، مصنفہ مرزا قادیانی)

○ ”اور جو شخص حکم ہو کر آیا ہے، اس کو اختیار ہے کہ حدیثوں کے ذخیرہ میں سے جس انبار کو چاہے خدا سے علم پا کر قبول کرے اور جس ڈھیر کو چاہے خدا سے علم پا کر رد کر دے۔“

(”تحفہ گوڑویہ“ ص ۱۰، ”روحانی خزائن“ حاشیہ ص ۵۱، جلد ۱، مصنفہ مرزا قادیانی)

○ ”یہ بھی تو سمجھو کہ شریعت کیا چیز ہے۔ جس نے اپنی وحی کے ذریعہ سے چند امر و نہی بیان کیے اور اپنی امت کے لیے ایک قانون مقرر کیا، وہی صاحب شریعت ہو گیا..... میری وحی میں امر بھی ہے اور نہی بھی۔“

○ ”چونکہ میری تعلیم میں امر بھی ہے اور نہی بھی اور شریعت کے ضروری احکام کی تجدید ہے اس لیے خدا تعالیٰ نے میری تعلیم کو اور اس وحی کو جو میرے پر ہوتی ہے، فلک یعنی کشتی کے نام سے موسوم کیا.... اب دیکھو خدا نے میری وحی اور میری تعلیم اور میری بیعت کو نوح کی کشتی قرار دیا اور تمام انسانوں کے لیے اس کو دار نجات ٹھہرایا۔ جس کی آنکھیں ہوں دیکھے اور جس کے کان ہوں سنے۔“

(”حاشیہ اربعین“ نمبر ۴، ص ۷، ۸۳، ”روحانی خزائن“ ص ۳۳۵، ج ۱، حاشیہ

مصنفہ مرزا قادیانی)

○ ”اب میری طرف دوڑو کہ وقت ہے جو شخص اس وقت میری طرف دوڑتا ہے، میں اس کو اس سے شیشہ دیتا ہوں کہ جو عین طوفان کے وقت جہاز میں بیٹھ گیا لیکن جو شخص مجھے نہیں مانتا، میں دیکھ رہا ہوں کہ وہ طوفان میں اپنے تئیں ڈال رہا ہے اور کوئی بچنے کا سامان اس کے پاس نہیں۔“

(”دافع ابلاء“ ص ۱۳، ”روحانی خزائن“ ص ۲۳۳، ج ۱۸، مصنفہ مرزا قادیانی)
 ○ ”خوب توجہ کر کے سن لو کہ اب اسم محمد کی تجلی ظاہر کرنے کا وقت نہیں، یعنی اب
 جلالی رنگ کی کوئی خدمت باقی نہیں کیونکہ مناسب حد تک وہ جلال ظاہر ہو چکا۔ سورج کی
 کرنوں کی اب برداشت نہیں، اب چاند کی ٹھنڈی روشنی کی ضرورت ہے اور وہ احمد کے
 رنگ میں ہو کر میں ہوں۔ اب اسم احمد کا نمونہ ظاہر کرنے کا وقت ہے یعنی جمالی طور کی
 خدمات کے ایام ہیں اور اخلاقی کمالات کے ظاہر کرنے کا زمانہ ہے۔“

(”اربعین نمبر ۴“ ص ۱۷، ”روحانی خزائن“ ص ۴۴۵، ج ۱۷، مصنفہ مرزا قادیانی)
 ○ اس زمانہ میں خدا نے چاہا کہ جس قدر نیک اور راست باز مقدس نبی گزر چکے ہیں،
 ایک ہی شخص کے وجود میں ان کے نمونے ظاہر کیے جاویں، سو وہ میں ہوں۔“
 (”براہین احمدیہ“ ص ۱۰۱، ۹۸، ”روحانی خزائن“ ص ۱۱۷، ج ۲۱، مصنفہ مرزا قادیانی)
 ○ ”جو شخص تیری پیروی نہیں کرے گا اور تیری جماعت میں داخل نہیں ہو گا وہ خدا
 اور رسول کی نافرمانی کرنے والا جنمی ہے۔“

(اشتہار مرزا غلام احمد قادیانی مندرجہ ”تبلیغ رسالت“ جلد نمبر ۹ ص ۲۷)
 ○ ”میری ان کتابوں کو ہر مسلمان محبت کی نظر سے دیکھتا ہے اور اس کے معارف سے
 فائدہ اٹھاتا ہے اور میری دعوت کی تصدیق کرتا ہے اور اسے قبول کرتا ہے۔ مگر نڈیوں
 (بدکار عورتوں) کی اولاد نے میری تصدیق نہیں کی۔“

(آئینہ کمالات اسلام، ص ۵۴، مصنفہ مرزا قادیانی)
 ○ ”جو ہماری فتح کا قائل نہیں ہو گا سمجھا جائے گا کہ اس کو ولد الحرام بننے کا شوق ہے
 اور حلال زادہ نہیں۔“

(انوار اسلام، ص ۳۰، مصنفہ مرزا قادیانی)

مندرجہ بالا مثالوں سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ:

- ☆ مرزا قادیانی اللہ کا نبی ہے۔ (نعوذ باللہ)
- ☆ مرزا قادیانی اللہ کا رسول ہے۔ (نعوذ باللہ)
- ☆ مرزا قادیانی پر وحی نازل ہوتی ہے۔ (نعوذ باللہ)
- ☆ مرزا قادیانی کی وحی بالکل قرآن کی طرح ہے۔ (نعوذ باللہ)

- ☆ مرزا قادیانی پر نازل ہونے والی وحی میں امر بھی ہے اور نہی بھی۔ (نعوذ باللہ)
- ☆ مرزا قادیانی کی نبوت کا تخت گاہ قادیان ہے۔ (نعوذ باللہ)
- ☆ مرزا قادیانی کے تین لاکھ نشان یعنی معجزے ہیں۔ (نعوذ باللہ)
- ☆ مرزا قادیانی پر ایمان نہ لانے والا جہنمی اور دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ (نعوذ باللہ)
- ☆ جو لوگ مرزا قادیانی پر ایمان نہیں لاتے وہ رند یوں کی اولاد اور حرام زادے ہیں۔ (نعوذ باللہ)
- ☆ جو لوگ مرزا قادیانی کو نہیں مانتے اللہ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی ہے۔ (نعوذ باللہ)
- ☆ حدیثوں کا فیصلہ مرزا قادیانی کا قول ہے۔ (نعوذ باللہ)
- ☆ اللہ تعالیٰ نے جب تمام انبیاء کو ایک ہی صورت میں دکھانا چاہا تو اسے مرزا قادیانی کی صورت میں دکھادیا۔ (نعوذ باللہ)
- ☆ قادیانیو! ہم نے بڑی جانفشانی سے مرزا قادیانی کو مدعی نبوت ثابت کر دیا۔۔۔ اس کی انگریزی نبوت کا سارا ڈھانچہ تمہاری آنکھوں کے سامنے بکھیر دیا۔ مجرم کے زبان و قلم سے اعتراف جرم کروادیا۔
- ☆ اگر اب بھی تم آنکھیں نہ کھولو۔۔۔ اب بھی تم خدا اور ہٹ دھرمی سے باز نہ آؤ۔۔۔ تو تمہیں جہنم کے گڑھے میں گرنے سے کون روک سکتا ہے۔
- اب جس کے جی میں آئے وہی پائے روشنی
ہم نے تو دل جلا کے سر عام رکھ دیا

مرزا قادیانی

کا

بیچپن

عالیٰ مجلس تحفظِ فتہ نبویہ

تذکرہ صاحبِ ضلع شیبٹو پورہ، فونٹ 2329

ایک دن میرے دل کے آنگن میں اک عجب خواہش نے انگڑائی لی کہ مرزا قادیانی کی شخصیت میں کوئی خوبی تلاش کی جائے۔ یہ منہ زور خواہش ایسے ہی تھی جیسے ابو جہل کے دل میں ایمان کی روشنی تلاش کی جائے، جیسے کیکر کے درخت کی شاخوں پر سیب ڈھونڈے جائیں۔ جیسے دکھتے انکاروں سے ٹھنڈک حاصل کرنے کی تمنا کی جائے، جیسے گیدڑ کے سینے میں شیر کا دل تلاش کیا جائے۔

میں نے مرزا قادیانی کی جوانی کا مطالعہ کیا تھا۔ اس کی ادھیڑ عمری کو ملاحظہ کیا تھا، اس کے بڑھاپے کو پڑھا تھا اور اس کے سیاپے پر بھی مطالعاتی نظر ڈالی تھی۔ اس کی جوانی ابلیس کا شباب تھا، اس کا ادھیڑ پن گناہوں کی غلاطت کی پوٹ تھی۔ اس کا بڑھاپا شراب اور عورتوں سے رنگین و سنگین تھا اور اس کا سپایا ساری کائنات کے لیے نمونہ عبرت تھا۔ مجھے مرزا قادیانی کے بچپن کا مطالعہ کرنے کا اتفاق نہیں ہوا تھا۔ پھر ایک دن میں نے اپنی لائبریری سے کتابیں نکالیں اور اس کے بچپن کو عیمق نگاہوں سے پڑھنا شروع کر دیا۔ مطالعہ کے بعد میری انگلی دانتوں میں دب کے رہ گئی اور میں بے ساختہ پکار اٹھا کہ یہ شخص تو پوتروں کا بگڑا ہوا تھا۔ میں نے کیا پڑھا؟ میں نے کیا دیکھا؟ آپ بھی پڑھئے۔ آپ بھی دیکھئے!!!!

پیدائش: ”یہ عاجز (مرزا قادیانی) بروز جمعہ چاند کی چودھویں تاریخ کو بوقت صبح پیدا ہوا۔“ (”تربیاق القلوب“، ص ۱۵، مصنفہ مرزا قادیانی)

تعارف کی کیا ضرورت تھی۔ شکل ہی سب کچھ بتا رہی ہے۔ (مولف)

کیسے پیدا ہوا: ”میرے ساتھ ایک لڑکی پیدا ہوئی جس کا نام جنت تھا۔ اور پہلے وہ لڑکی پیٹ سے باہر نکلی تھی اور بعد میں اس کے میں نکلا تھا اور میرا سر اس کے پاؤں میں تھا۔“ (”تربیاق القلوب“، ص ۳۷۹، مصنفہ مرزا قادیانی)

دنیا میں انوکھی پیدائش----- گنیز بک آف ورلڈ ریکارڈ میں نام آتا

چاہیے۔۔۔۔۔ پیدا ہوا تو ماں کو مصیبت۔۔۔۔۔ پیدا ہونے کے بعد مسلمانوں کو مصیبت۔۔۔۔۔ اور مرنے پر موت کے فرشتوں کو ٹٹی خانہ میں مارنے کی مصیبت!!!
مصیبت ہی مصیبت!!!

سندھی: ”والدہ صاحبہ نے فرمایا ایک دفعہ چند بوڑھی عورتیں وہاں سے آئیں تو انہوں نے باتوں باتوں میں کہا کہ سندھی ہمارے گاؤں میں چڑیاں پکڑا کرتا تھا۔ والدہ صاحبہ فرماتی ہیں کہ میں سندھی کا مفہوم نہ سمجھ سکی۔ آخر معلوم ہوا کہ سندھی سے مراد حضرت صاحب ہیں۔“ (”سیرت المہدی“ حصہ اول، ص ۳۵، مرزا بشیر احمد قادیانی ابن مرزا قادیانی)

سندھی نہیں سونڈی ہوگا اور سونڈی بھی انگریزی۔۔۔۔۔ جو انگریز نے اسلام کی فصل تباہ کرنے کے لیے تیار کی تھی۔۔۔۔۔ (مولف)

دسونڈی: ”والدین نے بچپن میں مرزا قادیانی کا نام دسونڈی رکھا تھا۔“ (”تکذیب براہین احمدیہ“ ص ۱۳۷، بحوالہ رئیس قادیان، جلد اول، ص ۱، مصنفہ مولانا رفیق دلاوری)

لاجواب نام۔۔۔۔۔ لاجواب کام۔۔۔۔۔ (مولف)

سیاحت: ”بیان کیا مجھ سے والدہ صاحبہ نے کہ حضرت صاحب فرماتے تھے کہ ہم بچپن میں والدہ کے ساتھ ہوشیار پور جاتے تھے تو چوہوں میں پھرا کرتے تھے۔ خاکسار عرض کرتا ہے کہ ضلع ہوشیار پور میں کئی برساتی ٹالے ہیں جن میں بارش کے وقت پانی بہتا ہے۔ ان ٹالوں کو پنجابی میں چوہ کتے ہیں۔“ (”حیات النبی“ مرتبہ یعقوب علی تراب مرزائی، جلد اول، ص ۱۳۸)

بچپن میں چوہوں میں پھرتا رہا اور بڑا ہو کر چوہوں کی طرح شجر اسلام کی جڑوں کو کترتا رہا۔۔۔۔۔ (مولف)

شکاری: ”بیان کیا مجھ سے والدہ صاحبہ نے کہ حضرت صاحب فرماتے تھے کہ ایک دفعہ میں گاؤں سے باہر ایک کنوئیں پر بیٹھا لاسا بنا رہا تھا کہ اس وقت مجھے کسی چیز کی ضرورت محسوس ہوئی جو گھر سے لانی تھی۔ میرے پاس ایک شخص بکیاں چرا رہا تھا۔

میں نے اسے کہا کہ میں تمہاری بکریاں چراؤں گا اور تم مجھے یہ چیز لا دو۔ خاکسار عرض کرتا ہے کہ لاسا ایک لیس دار چیز ہوتی ہے جو بعض درختوں کے دودھ وغیرہ سے تیار کی جاتی ہے اور جانور پکڑنے کے کام آتی ہے۔ ("سیرت المہدی" حصہ اول، ص ۲۵، مصنفہ مرزا بشیر احمد قادیانی، ابن مرزا قادیانی)

اور بڑا ہو کر مرزائیت کے "لا سے" سے انسانوں کو پکڑنا شروع کر دیا۔۔۔۔۔

(مولف)

چڑھی مار: "بیان کیا مجھ سے والدہ صاحبہ نے کہ ہماری دادی ایسے ضلع ہوشیار پور کی رہنے والی تھیں۔ حضرت صاحب فرماتے تھے کہ ہم اپنی والدہ کے ساتھ بچپن میں کئی دفعہ ایسے گئے ہیں۔ والدہ صاحبہ نے فرمایا کہ وہاں حضرت صاحب بچپن میں چڑیاں پکڑا کرتے تھے اور چاقو نہیں لٹا تھا تو سرکنڈے سے ذبح کر لیتے تھے۔" ("سیرت المہدی" حصہ اول، ص ۲۵، مصنفہ مرزا بشیر احمد قادیانی، ابن مرزا قادیانی)

بڑے ہو کر یہی سرکنڈا قرآن و حدیث کے گلے پر چلا دیا۔۔۔۔۔ (مولف)

نمک اور چینی: "بیان کیا مجھ سے والدہ صاحبہ نے کہ ایک دفعہ حضرت صاحب سناتے تھے کہ جب میں بچہ ہوتا تھا تو ایک دفعہ بعض بچوں نے مجھے کہا کہ جاؤ گھر سے بیٹھا لاؤ۔ میں گھر آیا اور بغیر کسی کے پوچھنے کے ایک برتن میں سے سفید بورا اپنی جیبوں میں بھر کر باہر لے گیا اور راستہ میں ایک مٹھی بھر کر منہ میں ڈال لی۔ بس پھر کیا تھا میرا دم رک گیا اور بڑی تکلیف ہوئی۔ کیونکہ معلوم ہوا کہ جسے میں نے سفید بورا سمجھ کر جیبوں میں بھرا تھا وہ بورا نہ تھا بلکہ پسا ہوا نمک تھا۔" ("سیرت المہدی" حصہ اول، ص ۲۴۴، مولفہ مرزا بشیر احمد قادیانی)

نمک اور چینی کی چوری سے چوری کی ابتداء کی اور نبوت چوری کرنے پر

انتہا کی۔۔۔۔۔ (مولف)

چور: "بیان کیا مجھ سے والدہ صاحبہ نے کہ ایک دفعہ اپنی جوانی کے زمانے میں حضرت مسیح موعود تمہارے دادا کی پنشن مبلغ ۷۰۰ روپے وصول کرنے گئے تو پیچھے پیچھے مرزا امام الدین چلا گیا۔ جب آپ نے پنشن وصول کر لی تو آپ کو پھسلا کر اور دھوکا

قادیان کے اردگرد تیر جاتا تھا۔ خاکسار عرض کرتا ہے کہ برسات کے موسم میں قادیان کے اردگرد اتنا پانی جمع ہوتا ہے کہ قادیان ایک جزیرہ بن جاتا ہے۔" ("سیرت المہدی" جلد اول، ص ۲۷۶، مصنفہ مرزا بشیر احمد قادیانی ابن مرزا قادیانی)

اب پتہ چلا۔۔۔ ساری عمر تجھے خارش کیوں لگی رہی۔۔۔۔۔ بچپن میں گندے پانی میں جو نہاتا تھا۔۔۔۔۔ (مولف)

بیچ گیا: "اسی ڈھاب میں تیرتے تیرتے مرزا صاحب ایک دفعہ ڈوب بھی چلے تھے۔" ("سیرت المہدی" حصہ اول، ص ۲۱۷، مصنفہ مرزا بشیر احمد قادیانی ابن مرزا قادیانی) کاش ڈوب جاتا اور ہزاروں لوگ دریائے ارتداد میں ڈوبنے سے بچ جاتے۔۔۔۔۔ (مولف)

لوٹا: "لالہ بھین سین وکیل سیالکوٹ کا بیان ہے کہ جب میں اور مرزا غلام احمد بٹالہ میں پڑھا کرتے تھے تو ان کی عادت تھی کہ مٹی کا ایک لوٹا (سبلوچہ گلی) پانی سے بھرواتے اور دو لڑکوں سے کہتے کہ اسے ہاتھ میں ایک ایک انگلی سے اٹھائے رہو۔ لڑکے انگلیوں کے سارے لوٹے کو تھام رکھتے۔ اس کے بعد مرزا صاحب کیمیا کے نسخوں کی دوائیں جدا کاغذ کے پرزوں پر لکھ کر گولیاں بناتے اور ایک ایک گولی اس لوٹے میں ڈالتے جاتے اور ساتھ ہی کوئی اسم پڑھتے جاتے تھے۔ جس گولی کی نوبت پر لوٹا گھوم جاتا تھا، اس گولی کا نسخہ پڑھ کر علیحدہ رکھ لیتے تھے اور پھر اس نسخہ کا تجربہ کرتے تھے لیکن کیمیاگری میں کامیابی کا منہ دیکھنا نصیب نہ ہوا۔" ("چودھویں صدی کا مسیح" مطبوعہ امرتسر، طبع ۱۳۲۳ھ، ص ۱۱)

لوٹا گھماتے گھماتے شیطان نے اس کے داغ کا لوٹا بھی گھما دیا۔۔۔۔۔ (مولف)

شعبدہ بازی: "مولوی محمد حسین بٹالوی اور مرزا قادیانی بٹالہ میں ہم سبق تھے۔ ایک مرتبہ مولوی محمد حسین، مرزا غلام احمد اور چند لڑکے رات کے وقت قصبہ بٹالہ سے باہر کھیتوں میں قضائے حاجت کے لیے گئے۔ گرمی کا موسم تھا۔ جگنو (کرک شب تاب) اڑ رہے تھے۔ رفع حاجت کے وقت ایک جگنو مرزا غلام احمد کے گریبان میں آ گیا۔

مرزا صاحب نے اسے ہاتھ میں دبا لیا۔ جب سب لڑکے جمع ہوئے تو غلام احمد صاحب نے ہم جولیوں سے کہا ”دیکھو میرے پیرہن کے نیچے درخشاں چیز کیا ہے؟ اور کہا اگر اسی طرح کوئی شعبہ کیا جائے تو لوگوں کو پھانسا جا سکتا ہے یا نہیں۔“ (”رئیس قادیان“ ص ۱۶، مولفہ مولانا ابوالقاسم رفیق دلاوری)

شروع سے ہی طبیعت میں مداری پن پایا جاتا تھا۔۔۔۔۔ (مولف)

گھر سے بھاگ گیا: مرزا محمود احمد کہتا ہے

”اور ایسا ہوا کہ ان دنوں میں آپ گھر والوں کے طعنوں کی وجہ سے کچھ دنوں کے لیے قادیان سے باہر چلے گئے اور سیالکوٹ جا کر رہائش اختیار کر لی اور گزارہ کے لیے ضلع پچھری میں ملازمت بھی کر لی۔“ (”تحفہ شہزادہ دلیز“ ص ۳۳۱، بحوالہ رئیس قادیان)

کس بات کے طعنے؟ آوارہ گردی کے؟ سکول سے بھاگ جانے کے؟ نشہ کرنے کے؟ باپ کی رقم خورد برد کرنے کے؟ اہل محلہ کی شکایتوں کے؟ کچھ وضاحت کی ہوتی۔۔۔۔۔ کچھ وجوہات بتائی ہوتیں۔۔۔۔۔ چلے چھوڑیئے۔۔۔۔۔ شاید کوئی ایسی حیا باختہ اور شرمناک وجہ ہو۔۔۔۔۔ جو ذکر کرنے کے قابل نہ ہو۔۔۔۔۔ (مولف)

جوئی نکل گئی: ”ایک مرتبہ مرزا صاحب اور سید محمد علی شاہ تلاش روزگار کے خیال سے قادیان سے چلے۔ کلانور کے قریب ایک نالے سے گزرتے ہوئے مرزا صاحب کی جوئی کا ایک پاؤں نکل گیا مگر اس وقت تک انہیں معلوم نہ ہوا جب تک وہاں سے بہت دور جا کر یاد نہیں کرایا گیا۔“ (”حیات النبی“ جلد اول“ ص ۵۸، مولفہ یعقوب علی قادیانی)

معلوم ہوتا ہے کہ افیم بچپن سے ہی شروع کر دی تھی۔۔۔۔۔ (مولف)

محترم قارئین! میں نے آپ کے سامنے انگریزی نبی مرزا قادیانی کی زندگی کے چند واقعات پیش کیے ہیں۔ اب میں چند اولیائے کرام کے بچپن کے واقعات آپ کے مطالعے کی نذر کرتا ہوں۔

حضرت سید شیخ عبدالقادر جیلانیؒ کو ان کی والدہ محترمہ نے بچپن میں جب

تخصیص علم کے لیے بغداد روانہ کیا تو ان کی ضروریات کے لیے چالیس اشرفیاں ان کی آستین میں سی دیں۔ رخصت کرتے ہوئے بیٹے کو نصیحت کی، ”بیٹا! ہمیشہ سچ بولنا چاہیے، کیسا ہی وقت آ پڑے۔“

حضرت شیخ قافلے کے ساتھ بغداد روانہ ہو گئے۔ راستے میں ایک مقام پر ڈاکوؤں نے قافلے پر دھاوا بول دیا۔ تمام مسافروں سے رقوم اور قیمتی اشیاء چھین لیں۔ ایک ڈاکو حضرت شیخ کے پاس آیا اور کہنے لگا، ”اے بچے! تیرے پاس بھی کچھ ہے؟“

”ہاں میرے پاس چالیس اشرفیاں ہیں۔“ حضرت شیخ نے جواب دیا۔

”کہاں رکھی ہیں؟“ ڈاکو نے پوچھا۔

”میرے کرتے کی آستین میں سلی ہوئی ہیں۔“ حضرت شیخ نے جواب دیا۔

ڈاکو نے جب آپ کے کرتے کی آستین کو پھاڑا تو وہاں سے واقعی پوری چالیس اشرفیاں نکلیں۔ ڈاکو حیران رہ گیا۔ اس نے حیرت زدہ ہو کر حضرت شیخ سے کہا کہ ”بچے اگر تم مجھے نہ بتاتے تو تمہاری یہ اشرفیاں محفوظ رہ سکتی تھیں۔ تم نے مجھے کیوں بتایا؟“

”گھر سے چلتے ہوئے میری اماں جی نے کہا تھا، بیٹا جھوٹ نہ بولنا۔“ حضرت

شیخ نے جواب دیا۔

ڈاکو شرم سے پانی پانی ہو گیا۔ وہ آپ کو لے کر اپنے سردار کے پاس گیا اور ساری کہانی سنائی۔ اپنی گناہ آلود زندگی اور آپ کے حسن کردار سے ڈاکو سخت نادم ہوئے اور ڈاکو نے زنی سے تائب ہو گئے۔

حضرت غوث الاعظم سیدنا عبدالقادر جیلانیؒ کی والدہ محترمہ بھی طریقت میں بہرہ کامل رکھتی تھیں۔ ان کا بیان ہے کہ میرا بچہ عبدالقادر رمضان المبارک میں دن کے وقت دودھ نہیں پیا کرتا تھا۔ انہی ایام رضاعت میں ایک سال ہلال عید کی رویت میں بڑی دشواری پیش آئی۔ لوگ دن بھر میرے پاس آ آ کر دریافت کرتے رہے کہ آج صبح سے تمہارے بچہ نے دودھ پیا ہے یا نہیں؟ میں انہیں جواب دیتی رہی کہ نہیں پیا ہے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ آج روزہ کا دن ہے۔ چنانچہ بعد میں اس

تواتر کے ساتھ اس دن روزہ ہونے کی خبریں آئیں کہ عبدالقادر کے رمضان میں دودھ نہ پینے کا گھر گھر چا ہونے لگا۔ (طبقات الکبریٰ، امام عبدالوہاب شعرانی، جلد اول، ص ۱۰۸)

جب حضرت سلطان العارفین بایزید، سلمیٰ، شکم مادر میں تھے تو اسی وقت سے ان کی کراہتیں ظاہر ہونے لگی تھیں۔ آپ کی والدہ محترمہ فرماتی ہیں کہ جب میں کوئی ایسا نوالہ منہ میں رکھتی تھی کہ اس میں کسی طرح کا شبہ ہوتا تھا تو بایزید میرے شکم میں تڑپنے لگتے اور جب تک میں اس لقمہ کو منہ سے نہ نکال ڈالتی، قرار نہ پکڑتے۔ اور جب سفیان ثوری، شکم مادر میں تھے تو ان کی مادر محترمہ کوٹھے پر تشریف لے گئیں۔ وہاں ہمسایہ کی ترشی سے ایک انگلی بھر کر چاٹ لی۔ سفیان پیٹ میں بے چین ہو گئے اور شکم میں اس قدر سردی دے مارا کہ ان کی والدہ تاز گئیں اور جھٹ پڑوسن کے پاس جا کر اس کی معافی مانگی۔

ایک دن ایک خوش الحان قاری نے حضرت فضیل بن عیاض کے سامنے خوش آوازی سے قرآن پڑھا۔ آپ نے فرمایا کہ میرے گھر کی طرف جاتے ہوئے میرے بیٹے کو بھی قرآن سناتے جانا لیکن کوئی ایسی سورت نہ پڑھنا جس میں قیامت کا تذکرہ ہو۔ کیونکہ میرا فرزند قیامت کا ذکر سننے کی تاب نہیں لا سکتا۔ سوء اتفاق سے قاری نے سورۃ القارعہ پڑھ دی۔ اس پاک ذات بچے نے حج ماری اور جان بحق تسلیم ہوا۔ (تذکرۃ الاولیاء)

امام عبدالوہاب شعرانی نے ”طبقات الکبریٰ“ میں لکھا ہے کہ عارف باللہ محمد وفا رحمۃ اللہ نے ایام طفلی میں کہ ان کی عمر دس سال سے بھی کم تھی، متعدد کتابیں تصنیف فرمائیں۔ (”طبقات الکبریٰ“ جلد ۲، ص ۶)

ایک مرتبہ خلیفہ ہارون الرشید اور اس کی ملکہ زبیدہ خاتون میں کچھ رنجش ہوئی اور زبیدہ خاتون کے منہ سے نکل گیا ”اے دوزخی!“ ہارون رشید غضبناک ہو کر کہنے لگا اگر میں دوزخی ہوں تو تجھے طلاق ہے اور اسی وقت ایک دوسرے سے علیحدہ ہو گئے لیکن چونکہ خلیفہ کو زبیدہ خاتون سے انتہا درجہ کی محبت تھی، اس کی جدا کی میں سخت بے چین ہوا۔ آخر اس مشکل کا حل تجویز کرنے کے لیے دار الخلافہ کے تمام علماء

کو جمع کیا اور صورت حال پیش کی۔ تمام علماء اس کا جواب دینے سے قاصر رہے اور بالاتفاق کہنے لگے کہ خدائے علام الغیوب کے سوا کوئی نہیں جان سکتا کہ خلیفہ ہارون دوزخی ہے یا بہشتی۔ علماء کی جماعت میں سے ایک لڑکا باہر نکل کر کہنے لگا کہ اگر حکم ہو تو میں جواب دوں۔ لوگ حیرت زدہ ہو کر کہنے لگے لڑکے! شاید تو دیوانہ ہے۔ بھلا جب تمام نامی گرامی علماء جواب دینے سے عاجز ہیں تو تیری کیا بباط ہے؟ خلیفہ نے اس لڑکے کو دیکھ لیا اور اپنے پاس بلا کر کہا ہاں تم جواب دو۔ لڑکے نے کہ حضرت امام شافعیؒ تھے کہا امیر المؤمنین! آپ کو میری احتیاج ہے یا مجھے آپ کی؟ خلیفہ نے کہا مجھ کو تمہاری ضرورت ہے۔ یہ سن کر لڑکے نے فرمایا کہ آپ تخت سے نیچے اتر آئیے۔ کیونکہ علماء کا رتبہ بلند تر ہے۔ خلیفہ نے انہیں تخت پر بٹھایا اور خود تخت سے نیچے اتر آیا۔ لڑکے نے کہا پہلے میرے ایک سوال کا جواب دیجئے۔ خلیفہ نے کہا اچھا پوچھو۔ لڑکے نے کہا کیا آپ کبھی قدرت رکھنے کے باوجود کسی گناہ سے محض خوف خدا سے باز رہے ہیں؟ خلیفہ نے کہا ہاں بے شک! یہ سن کر امام شافعیؒ نے فرمایا میں فتویٰ دیتا ہوں کہ آپ جنتی ہیں۔ تمام علماء یکبارگی پکار اٹھے کس دلیل سے؟ امام شافعی نے فرمایا حق تعالیٰ کا ارشاد ہے **و املن خاف مقام ربه و انھی النفس عن الهوی فان الجنة هی المولی** (جس شخص نے گناہ کا قصد کیا اور پھر خشیت الہی نے اس کو اس گناہ سے باز رکھا تو اس کا لجا و مادئ جنت ہے) یہ سن کر تمام علماء اش اش کرنے لگے اور کہا کہ جس شخص کا لڑکھن میں یہ حال ہے، نہیں معلوم کہ بڑا ہو کر کس عظمت کا مالک ہوگا۔ (تذکرۃ الاولیاء)

حضرت سہل بن عبد اللہ تستری رحمۃ اللہ نے فرمایا ہے کہ میں اس وقت کے تمام حالات بھی جانتا ہوں جب کہ میں ہنوز شکم مادر میں تھا اور فرمایا میں تین برس کا تھا جب کہ میں اپنے ماموں محمد بن سوارؒ کے ساتھ نماز تہجد پڑھا کرتا تھا۔ وہ مجھ کو اپنے ساتھ جاگتے اور نماز پڑھتے دیکھ کر فرمایا کرتے اے سہل سو جا! کیونکہ میرا دل تیری وجہ سے مشوش ہوتا ہے۔

اسی طرح حضرت ابو بکر درانؒ ایک فرزند مکتب جایا کرتا تھا۔ ایک دن انہوں نے دیکھا کہ رو رہا ہے اور اس کے چہرے کا رنگ فق ہے۔ پوچھا بیٹا! کیا ہوا؟ کہا آج

استاد نے ایک آیت پڑھائی ہے جس کی وجہ سے میرا دل سخت بے چین ہے۔ پوچھا وہ کون سی آیت ہے کہا ہو ما جعل الولدان شیبا (وہ ایسا دن ہوگا جب کہ لڑکے بھی بڑھے ہو جائیں گے) غرض وہ لڑکا اس آیت کے خوف سے بیمار رہ کر جان بحق ہو گیا۔

حضرت جنید بغدادیؒ لڑکپن سے محبت الہی سے معمور باادب اور صاحب فراست تھے۔ ایک روز مکتب سے گھر آئے تو باپ کو روتے دیکھ کر پوچھا ابا جان! رونے کا کیا سبب ہے۔ انہوں نے کہا ”آج مال کی زکوٰۃ میں سے کچھ رقم تمہارے ماموں (شیخ سری سقلی رحمۃ اللہ) کو (جو اولیائے کاملین میں سے تھے) بھیجی تھی لیکن انہوں نے قبول نہیں کی۔ میری آرزو تھی کہ یہ چند درہم اللہ کے دوستوں میں سے کسی کے کام آئیں۔ جنیدؒ نے فرمایا مجھے دیجئے! میں ان کو دے کر آتا ہوں۔ غرض وہ درہم لے کر اپنے ماموں کے ہاں پہنچے اور دروازے پر دستک دی۔ حضرت سری سقلیؒ نے پوچھا کون ہے؟ کہا میں جنید ہوں۔ دروازہ کھولو اور یہ فریضہ زکوٰۃ لو۔ ماموں جو بہت نادار تھے، فرمانے لگے میں نہیں لوں گا۔ حضرت جنیدؒ نے فرمایا آپ کو اس خدا کی قسم جس نے آپ پر فضل اور میرے باپ کے ساتھ عدل کیا، اس نو لے لیجئے۔ حضرت سری سقلیؒ نے فرمایا جنید! مجھ پر کیا فضل کیا اور تمہارے باپ کے ساتھ کیا عدل کیا۔ کہا آپ پر یہ فضل کیا کہ آپ کو اپنی معرفت کے شرف سے نوازا اور میرے والد سے یہ عدل کیا کہ اس کو دنیا میں مشغول کیا اور یہ فریضہ زکوٰۃ تو بہر حال کسی حقدار کو پہنچانا ہے۔ حضرت شیخ کو یہ بات پسند آئی اور فرمایا کہ پہلے اس سے یہ زکوٰۃ قبول کروں، میں نے تجھے قبول کیا اور دروازہ کھول کر زکوٰۃ لے لی اور بت جنید کو اپنے آغوشِ عاطفت میں (بیت) کرنے لگے۔ حضرت جنیدؒ سات سال کے نئے کہ حضرت سری سقلیؒ ان کو اپنے ساتھ حج بیت اللہ کے لیے مکہ معظمہ لے گئے۔ ایک موقع پر خانہ کعبہ میں چار سو پیروں کے درمیان مسئلہ شکر درپیش تھا۔ ہر ایک نے مسئلہ شکر پر اپنے اپنے خیال کا اظہار کیا۔ سری سقلیؒ کہنے لگے جنید! تم بھی کچھ کہو۔ جنیدؒ نے فرمایا کہ شکر کی حقیقت یہ ہے کہ حق تعالیٰ انسان کو جو نعمت عطا فرمائے، بندہ اس نعمت کے سبب سے اس کا نافرمان نہ بنے اور اس کو معصیت و نافرمانی کا ذریعہ نہ

بنائے۔ مشائخ کرام بے ساختہ بول اٹھے اے نورالعین! تم نے شکر کی بالکل صحیح تعریف کی اور کہا صاحبزادے! اس سے بہتر اور کوئی تعریف نہیں ہو سکتی۔ (تذکرۃ الاولیاء)

○ امام بخاریؒ کا بچپن ہی میں اس قدر غضب کا حافظ تھا کہ استادوں کے ساتھ محض حدیث سن کر یاد کر لیا کرتے جب کہ دوسرے ہم سن بغیر لکھے ہوئے یاد نہ رکھ سکتے تھے۔ ایک نو عمر بچہ کا یہ فعل ہم عمروں کے لیے تعجب کا باعث ہوا۔ آخر کار لوگوں سے نہ رہا گیا اور چھینڑ دیا، میاں بچے لکھتے نہیں تو پھر کس طرح یاد کرو گے۔ امام نے فرمایا، تم کئی بار ٹوک چکے ہو، لاؤ اپنا لکھا ہوا ذخیرہ۔ لایا گیا جو پندرہ ہزار حدیثوں پر مشتمل تھا۔ آپ نے سب کا سب فر فر سنا دیا۔ اس کے بعد فرمایا، میں یونہی اپنا وقت ضائع نہیں کر رہا ہوں۔

اسی وقت لوگوں نے فیصلہ کر لیا کہ اس شخص سے کوئی آگے نہیں بڑھ سکتا۔
(تذکرہ، ص ۲۵۶)

○ بچپن ہی کا قصہ ہے کہ سلیم ابن مجاہد فرماتے ہیں کہ میں محمد ابن اسلام بیکندی کے پاس پہنچا تو فرمانے لگے کہ کچھ پہلے آئے ہوتے تو ایک بچے سے ملاقات ہو جاتی۔ ستر ہزار احادیث کا حافظ ہے۔ مجھے بڑا تعجب معلوم ہوا اور میں ان کی تلاش میں نکلا۔ چنانچہ ملاقات ہو گئی۔

میں نے پوچھا، تم ستر ہزار احادیث کے حافظ ہو؟ فرمانے لگے، جی ہاں! بلکہ اس سے بھی زیادہ کا حافظ ہوں۔ صرف اتنا ہی نہیں بلکہ راویان حدیث صحابہ و تابعین کے سن پیدائش و وفات و جائے سکونت بھی بتا سکتا ہوں۔

(طبقات الشافعیۃ الکبریٰ، ج ۲، ص ۵)

○ ابراہیم ابن سعید فرماتے ہیں کہ خلیفہ مامون کے دربار میں چار سال کا ایک بچہ لایا گیا جس نے قرآن مجید پڑھ لیا تھا۔ مسائل شرعی سے بھی واقف تھا مگر جب بھوکا ہوتا تو بچوں کی طرح رونے لگتا یعنی بچوں کا خاصہ موجود تھا۔

قاضی ابو عبد اللہ بن محمد اصہبانی نے فرمایا کہ میں نے پانچ سال کی عمر میں قرآن حفظ کر لیا تھا۔ جب چار سال کا ہوا تو سماعت حدیث کے لیے ابو بکر بن المہقری

کے پاس لے جایا گیا۔ تو بعض لوگوں نے فرمایا کہ سورہ کافرون سناؤ تو میں نے سنا دی۔ پھر سورہ کوثر سنانے کی فرمائش کی تو اس کو بھی سنا دیا۔

حاضرین میں سے کسی نے سورہ مرسلات پڑھنے کی فرمائش کی۔ میں نے فر فر سنا دی اور کہیں بھی غلطی نہیں کی۔ محدث ابن المقرئ نے فرمایا کہ ان سے حدیث سننے میں کوئی حرج نہیں ہے، میں اس کا ذمہ دار ہوں۔

(مقدمہ ابن صلاح، ص ۶۲، بحوالہ اسلاف کے حیرت انگیز کارنامے، ص ۲۰۲، حکیم محمد یوسف ہاشمی)

صاحبو! وہ ڈاکوؤں کے سامنے سچ بول کر اپنے پیسے ان کے حوالے کر دیتے تھے اور یہ باپ کی پنشن کی رقم لے کر بھاگ جاتا تھا وہ علم کے بحر بے کنار کے تیراک تھے اور یہ قادیان کے چھپر میں تیرتا تھا۔ وہ علم کی تلاش میں گھر سے نکلتے تھے اور یہ آوارہ گردی کی وجہ سے والدین کی ڈانٹ ڈپٹ سے گھر سے سیالکوٹ بھاگ جاتا تھا۔ وہ اپنے علم کی تموار سے جہالت کے گلے کاٹتے تھے اور یہ سرکنڈوں سے چڑیوں کے گلے کاٹتا تھا ان کے استاد اپنے وقت کے اولیاء اللہ ہوتے تھے اور اس کا استاد انبی تھا ان کے دودھ پینے یا نہ پینے سے رمضان المبارک کا پتہ چلتا تھا اور اس نے ساری عمر روزہ ہی نہیں رکھا۔ وہ حصول علم کے لیے دیں دیں پھرا کرتے تھے اور یہ قادیان کے گندے برساتی نالوں میں پھرا کرتا تھا۔ وہ قرآن کے عاشق صادق تھے اور اس نے قرآن میں تحریف کے طوفان اٹھائے۔ وہ حرام کا ایک چھوٹا سا لقمہ ہضم نہ کر سکتے تھے اور یہ ساری زندگی انگریز کا مال کھاتا رہا۔ وہ اپنے نبی پر سو جان سے فدا تھے اور اس بدطینت نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تحت نبوت پر بیٹھنے کی ناپاک جسارت کی وہ اللہ کے خوف سے لرزتے تھے اور یہ شقی القلب خود خدا بن بیٹھا۔

مرزا قادیانی کو یہ عادتِ رذیلہ کیسے پڑیں؟ وہ کون سی تہذیب تھی، جس نے اسے بدتہذیب بنا دیا۔ وہ کون سا کلچر تھا جس نے اسے آوارہ گرد اور بے شرم بنا دیا؟ وہ کون سا ماحول تھا جس کی آغوش میں اس نے تربیت پائی تھی؟ قادیانی کتب کے مطالعہ سے ہی ان سوالوں کے جواب مل جاتے ہیں۔ حوالہ پیش خدمت ہے۔

”ڈاکٹر میر محمد اسماعیل نے مجھ سے بیان کیا کہ میں نے قادیان کی وہ حالت

دیکھی ہے جب کہ یہاں کے عام لوگ اردو سمجھ نہیں سکتے تھے۔ بڑی بڑی عمر کے لوگ لنگوٹی باندھتے تھے اور قریباً برہنہ رہتے تھے۔ رات کو عورت مرد کپڑے اتار کر سرہانے رکھ لیتے تھے اور ننگے لحاف میں گھس جاتے تھے۔ بچے بڑی عمر تک ننگے پھرتے تھے۔ سروں میں بیچ میں سے بال منڈے ہوئے ہوتے تھے۔“ (سیرت المہدیٰ حصہ سوم، ص ۲۵۶، مصنفہ مرزا بشیر احمد قادیانی ابن مرزا قادیانی)

معلوم ہوتا ہے کہ مرزا قادیانی کے اپنے گھر کا بھی یہی حال تھا۔۔۔۔۔

(مولف)

قادیانیو! اندھے کو راستہ دکھانا کارِ ثواب ہے۔ بھولے بھکوں کو راہِ راست پر ڈالنا نیکی کا کام ہے۔ فریب خوردہ لوگوں کو حقائق سے آشنا کرنا انسانیت کی خدمت ہے۔ لٹنے والوں کی مدد کرنا مسلمانوں کا فرض ہے۔

اے قادیانیو! تم بھی اندھے ہو کہ تم نے آنکھوں پر قادیانیت کی دیبہ شیشوں والی عینک لگا رکھی ہے۔ تم بھی بھٹکے ہوئے ہو کہ تم جنم کو اپنی منزل سمجھ رہے ہو۔ تم بھی فریب خوردہ ہو کہ مرزا قادیانی جیسے دجال کو نبی مان رہے ہو۔ تم بھی لٹے ہوئے ہو کہ ختم نبوت کے ڈاکو مرزا قادیانی نے تمہاری متاعِ ایمان لوٹ لی ہے!

خدارا! ہوش میں آؤ۔ اس سے پہلے کہ موت کا بگل تمہارے ہوش اڑا

دے۔

مقامات

کا

بردار



عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت ہ۔ حسین شریف مسلمانوں لاہور پکستان

سوال: جناب عالی ہم نے مختلف لوگوں سے یہ سنا ہے کہ مرزا قادیانی

۱- شراب پیتا تھا۔

۲- انیون کھاتا تھا۔

۳- غیر محرم عورتوں سے ٹانگیں دبواتا تھا۔

۴- سینما دیکھتا تھا۔

۵- غلیظ گالیاں بکتا تھا۔

۶- اسے مراق و ہشیر یا تھا۔

۷- وہ جوتے کا دایاں پاؤں بائیں میں اور بائیں پاؤں دائیں میں ڈال لیتا تھا۔

۸- قیض کے بٹن اپنے سامنے والے کاجوں کے بجائے اوپر نیچے لگاتا تھا۔

۹- اس نے جوتے کو سیاہی کی دوات بنا رکھا تھا۔

۱۰- وہ مختاری کے امتحان میں فیل ہو گیا تھا۔

۱۱- اس کے فرشتوں کے نام ٹیچی ٹیچی درشن اور خیراتی تھے۔

۱۲- اسے انگریزی، ہندی اور پنجابی میں الہامات وحی ہوتے تھے۔

۱۳- اس نے جماد کو حرام قرار دیا۔

۱۴- اس نے کہا کہ جو مجھے نہیں مانتا وہ کافر ہے۔

۱۵- وہ حیا سوز شاعری کرتا تھا۔

کیا یہ باتیں ہوائی یا فرضی ہیں یا کہ ان کے ثبوت بھی ہیں؟ اگر ثبوت موجود ہیں اور

قادیانیوں کی ایک کثیر تعداد کو ان باتوں کا پتہ بھی ہے تو پھر وہ اسے کیوں اپنانی اور راہنما

مانتے ہیں۔ (از طرف، فیاض اختر ملک)

جواب: جن باتوں کا آپ نے تذکرہ کیا یہ ہوائی نہیں ہیں بلکہ ہمارے پاس ان تمام کے

بین ثبوت موجود ہیں۔ لیجئے ثبوت پیش خدمت ہیں۔

شراب

”محی اخو کیم محمد حسین سلمہ اللہ تعالیٰ اسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔“

اس وقت میاں یار محمد بھیجا جاتا ہے۔ آپ اشیائے خریدنی خود خریدیں اور ایک بوتل ٹانک وائٹن، ای پلو مرکی دکان سے خریدیں۔ مگر ٹانک وائٹن چاہیے۔ اس کا لحاظ رہے۔ باقی خیریت ہے۔“ والسلام (خطوط امام بنام غلام، ص ۵)

سودائے مرزا کے حاشیہ پر حکیم محمد علی پر نسل طبیبہ کالج امرتسر لکھتے ہیں، ٹانک وائٹن کی حقیقت لاہور میں ای پلو مرکی دکان سے ڈاکٹر عزیز احمد صاحب کی معرفت معلوم کی گئی۔ ڈاکٹر صاحب جو ابا تحریر فرماتے ہیں حسب ارشاد ای پلو مرکی دکان سے دریافت کیا گیا۔ جواب حسب ذیل ہے:

”ٹانک وائٹن ایک قسم کی طاقتور اور نشہ دینے والی شراب ہے جو ولایت سے سر بند بوتلوں میں آتی ہے۔ اس کی قیمت ساڑھے پانچ روپے ہے۔“

(۲۱ دسمبر ۱۹۳۲ء، ”سودائے مرزا“ ص ۳۹، حاشیہ)

افیون

”حضرت مسیح مدعو علیہ السلام نے ”تریاق الہی“ دوا، خدا تعالیٰ کی ہدایت کے ماتحت بنائی اور اس کا ایک بڑا جز افیون تھا اور یہ دوا کسی قدر اور افیون کی زیادتی کے بعد حضرت خلیفہ اول (حکیم نور الدین) کو حضور (مرزا قادیانی) چھ ماہ سے زائد تک دیتے رہے اور خود بھی دقتاؤں تینا مختلف امراض کے دوروں کے وقت استعمال کرتے رہے۔“

(مضمون میاں محمود احمد، اخبار ”الفضل“ جلد ۱، نمبر ۳، مورخہ ۱۹ جولائی ۱۹۲۹ء)

غیر محرم عورتیں

”حضرت ام المومنین (محترمہ نصرت جہاں بیگم زوجہ مرزا قادیانی) نے ایک دن سنایا کہ حضرت صاحب کے ہاں ایک بوڑھی ملازمہ مسماۃ بھانو تھی۔ وہ ایک رات جب کہ خوب سردی پڑ رہی تھی، حضور کو دبانے بیٹھی۔ چونکہ وہ لحاف کے اوپر سے دہاتی تھی اس لیے اسے پتہ نہ لگا کہ کس چیز کو دبا رہی ہوں۔ وہ حضور کی ٹانگیں نہیں بلکہ پلنگ کی پٹی ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد حضرت نے فرمایا ”بھانو آج بڑی سردی ہے۔“ بھانو کہنے لگی ”ہاں جی! تدمے تے تہاڑیاں تہاں لکڑی وانگ ہو یاں ہو یاں نیں“ (جہی تو آپ کی ٹانگیں لکڑی کی

طرح سخت ہو رہی ہیں۔) خاکسار عرض کرتا ہے کہ حضرت صاحب نے جو بھانوں کو سردی کی طرف توجہ دلائی تو اس میں غالباً یہ جتنا مقصود تھا کہ آج شاید سردی کی وجہ سے تمہاری حس کمزور ہو رہی ہے۔“ (”سیرت الممدی“ جلد ۳، ص ۲۱۰، مصنفہ مرزا بشیر احمد ابن مرزا قادیانی)

سینمایا تھیٹر

مرزا قادیانی کا نام نداد صحابی مفتی محمد صادق بیان کرتا ہے:

”ایک شب دس بجے کے قریب میں تھیٹر میں چلا گیا جو مکان کے قریب ہی تھا اور تماشہ ختم ہونے پر دو بجے رات کو واپس آیا۔ صبح فٹنی ظفر احمد صاحب نے میری عدم موجودگی میں حضرت صاحب کے پاس میری شکایت کی کہ مفتی صاحب رات کو تھیٹر چلے گئے تھے۔ حضرت صاحب نے فرمایا، ایک دفعہ ہم بھی گئے تھے۔“ (”ذکر حبیب“ ص ۱۸، مصنفہ مفتی محمد صادق)

غلیظ گالیاں

- (i) ”سعد اللہ لدھیانوی بے وقوفوں کا نطفہ اور کنجری کا بیٹا ہے۔“ (”تمہ حقیقتہ الوحی“ ص ۱۴)
- (ii) ”خدا تعالیٰ نے اس کی بیوی کے رحم پر مہر لگادی۔“ (”تمہ حقیقتہ الوحی“ ص ۱۳)
- (iii) ”آریوں کا پر میشر (خدا) ناف سے دس انگلی نیچے ہے۔ سمجھنے والے سمجھ لیں۔“ (چشمہ معرفت، ص ۱۱۶)
- (iv) ”ہر مسلمان مجھے قبول کرتا ہے اور میرے دعوے پر ایمان لاتا ہے مگر زنا کار کنجریوں کی اولاد جن کے دلوں پر خدا نے مہر کر دی ہے۔ وہ مجھے قبول نہیں کرتے۔“ (”آئینہ کمالات اسلام“ ص ۵۴)
- (v) ”جھوٹے آدمی کی یہی نشانی ہے کہ جاہلوں کے رو برو تو ہمت لاف گزارا مارتے ہیں مگر جب کوئی دامن پکڑ کر پوچھے کہ ذرا ثبوت دے کر جاؤ تو جہاں سے نکلے تھے وہیں داخل ہو جاتے ہیں۔“ (”حیات احمد“ جلد نمبر ۱۔ ص ۳، ص ۲۵)

(۷۱) ”عبدالرحمن کو پوچھنا چاہیے کہ اس کا وہ مباہلہ کی برکت کا لڑکا کہاں گیا۔ کیا اندر ہی اندر پیٹ میں تحلیل پا گیا یا پھر رجعت قمری کر کے نطفہ بن گیا۔ اب تک اس کی عورت کے پیٹ سے ایک چوہا بھی پیدا نہ ہوا۔“ (ضمیمہ انجام آتھم، ص ۲۷)

مراق۔ ہسٹیریا

”ڈاکٹر میر محمد اسماعیل نے مجھ سے بیان کیا کہ میں نے کئی دفعہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام سے سنا ہے کہ مجھے ہسٹیریا ہے۔ بعض اوقات آپ مراق بھی فرمایا کرتے تھے۔ لیکن دراصل بات یہ ہے کہ آپ کو دماغی مشقت اور شبانہ روز تصنیف کی مشقت کی وجہ سے بعض ایسی عصبی علامات پیدا ہو جایا کرتی تھیں جو ہسٹیریا کے مریضوں میں بھی عموماً دیکھی جاتی ہیں۔ مثلاً کام کرتے کرتے یک دم ضعف ہو جانا، چکر دوں کا آنا، ہاتھ پاؤں کا سرد ہو جانا، گھبراہٹ کا دورہ ہو جانا، ایسا معلوم ہونا تھا کہ ابھی دم نکلتا ہے یا کسی تنگ جگہ یا بعض اوقات زیادہ آدمیوں میں گھر کر بیٹھنے سے دل کا سخت پریشان ہونے لگنا وغیرہ ذالک۔“ (سیرت المہدی حصہ دوم ص ۵۵ مصنفہ مرزا بشیر احمد قادیانی)

دایاں بایاں

”بعض اوقات کوئی دوست حضور کے لیے گرگاہی (جو تا) ہدیتہ لانا تو آپ بسا اوقات دایاں پاؤں، بائیں میں ڈال لیتے تھے اور بایاں، دائیں میں۔ چنانچہ اس تکلیف کی وجہ سے آپ دیسی جو تاپنتے تھے۔ اسی طرح کھانے کا یہ حال تھا کہ خود فرمایا کرتے تھے، ہمیں تو اس وقت پتہ لگتا ہے کہ کیا کھا رہے ہیں، جب کھانا کھاتے کھاتے کوئی کنکر وغیرہ کاریزہ دانت کے نیچے آجاتا ہے۔“

(”سیرت المہدی“ حصہ دوم، ص ۵۸، مصنفہ بشیر احمد قادیانی ابن مرزا قادیانی)

بٹن اور کاج

”بارہا دیکھا گیا ہے کہ بٹن اپنا کاج چھوڑ کر دوسرے ہی میں لگے ہوئے ہوتے تھے۔ بلکہ صدری کے بٹن کوٹ کے کاجوں میں لگائے ہوئے دیکھے گئے۔“

(سیرت المہدی حصہ دوم ص ۱۲۶ مصنفہ مرزا بشیر احمد قادیانی)

جوتی کی دوات

”ایک دفعہ فرمانے لگے میرے لیے کسی نے بوٹ بھیجے ہیں۔ میری سمجھ میں اس کا دایاں بایاں نہیں آیا۔ آخر اس کو سیاہی ڈالنے کے لیے بنا لیا۔“

(الحکم ۱۴ دسمبر ۱۹۳۴ء ص ۵ کالم نمبر ۲)

مختاری کے امتحان میں فیل

”چونکہ مرزا صاحب ملازمت کو پسند نہیں کرتے تھے اس واسطے آپ نے مختاری کے امتحان کی تیاری شروع کر دی اور قانون کی کتابوں کا مطالعہ شروع کیا، پر امتحان میں کامیاب نہ ہوئے۔“ (”سیرت المہدی“ حصہ اول، ص ۱۳۸، بشیر احمد قادیانی)

فرشتے

”ٹپٹی ٹپٹی“: ”۵ مارچ ۱۹۰۵ء کو خواب میں ایک فرشتہ دیکھا جس نے اپنا نام ”ٹپٹی ٹپٹی“ بتایا“

(”حقیقت الوحی“ ص ۲۳۲، مصنفہ مرزا قادیانی)

”درشنی“: ”ایک فرشتہ میں نے بیس برس کے نوجوان کی شکل میں دیکھا۔ صورت اس کی مثل انگریزوں کی تھی اور میز کرسی لگائے ہوئے بیٹھا تھا۔ میں نے اس سے کہا۔ آپ بہت ہی خوبصورت ہیں اس نے کہا میں درشنی ہوں۔“ (”تذکرہ“ ص ۳۱)

”خیراتی“: ”تین فرشتے آسمان سے آئے اور ایک کا نام خیراتی تھا۔“

(”تزیاق القلوب“ ص ۱۹۲، مصنفہ مرزا قادیانی)

پنجابی، ہندی اور انگریزی وحی

پنجابی: ”ایک دفعہ حضرت مسیح موعود نے یہ الہام سنایا کہ ”پٹی پٹی گئی“۔“

(”تذکرہ“ ص ۸۰۱)

ہندی: ”ہے کرشن جی رودر گوپال“

(”البدر“ جلد دوم، نمبر ۴۱، مورخہ ۲۹ اکتوبر ۱۹۰۳ء ص ۳۲۲)

انگریزی:

"I love you." میں تم سے محبت کرتا ہوں

"I am with you" میں تمہارے ساتھ ہوں

"I shall help you." میں تمہاری مدد کروں گا

(”حقیقتہ الوحی“ ص ۳۰۳ مصنفہ مرزا قادیانی)

جہاد

”اب چھوڑ دو جہاد کا اے دوستو خیال
دین کے لیے حرام ہے اب جنگ اور قتال
اب آگیا مسیح جو دین کا امام ہے
دین کے لیے تمام جنگوں کا اب اختتام ہے
اب آسمان سے نور خدا کا نزول ہے
اب جنگ اور جہاد کا فتویٰ فضول ہے
دشمن ہے خدا کا جو کرتا ہے اب جہاد
مکر نبی کا ہے جو یہ رکھتا ہے اعتقاد“

(ضمیمہ ”تحفہ گولڑویہ“ ص ۳۹، مصنفہ مرزا قادیانی)

○ ”آج سے انسانی جہاد جو تلوار سے کیا جاتا تھا، خدا کے حکم کے ساتھ بند کیا گیا۔ اب اس کے بعد جو شخص کافر پر تلوار اٹھاتا ہے اور اپنا نام غازی رکھتا ہے۔ وہ اس رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نافرمانی کرتا ہے۔“ (”خطبہ الہامیہ“ مترجم، ص ۲۸-۲۹، مصنفہ مرزا قادیانی)

کافر ہے!

”ہر ایک شخص جس کو میری دعوت پہنچی ہے اور اس نے مجھے قبول نہیں کیا وہ مسلمان نہیں۔“ (”حقیقتہ الوحی“ ص ۱۶۳، مصنفہ مرزا غلام احمد قادیانی)

”جو شخص میری پیروی نہ کرے گا اور بیعت میں داخل نہ ہو گا وہ خدا، رسول کی نافرمانی کرنے والا جنسی ہے۔“ (اشتہار معیار الاخیار ص ۸، مصنفہ مرزا قادیانی)

چکے چکے حرام کروانا آریوں کا اصول بھاری ہے
 نام اولاد کے حصول کا ہے ساری شہوت کی بے قراری ہے
 بنا بنا پکارتی ہے غلط یار کی اس کو آہ و زاری ہے
 دس سے کروا چکی ہے زنا پاک دامن ابھی بے چاری ہے
 زن بیگانہ پر یہ شیدا ہیں جس کو دیکھو وہی شکاری ہے
 ("آریہ دھرم" ص ۷۶-۷۷، مصنفہ مرزا قادیانی)

○ آپ نے پوچھا ہے کہ اگر قادیانیوں کی اکثریت مرزا قادیانی کی حقیقت کو جانتی ہے تو پھر اسے اپنا نبی اور راہبر کیوں مانتے ہیں؟

○ جو اباعرض ہے کہ ہیروئین پینے والے کو پتہ ہوتا ہے کہ ہیروئین نوشی سے میں صحت اور دولت سے محروم ہو جاؤں گا اور پھر یہ ہیروئین مجھے موت کے گھاٹ اتار دے گی۔ لیکن وہ اپنے بچوں کے منہ سے نوالے چھین کر اور بیوی کے زیورات بیچ کر اور گھر کو جہنم بنا کر اپنا ہولناک شوق پورا کرتا ہے۔

○ جعلی ادویات بیچنے والے کو معلوم ہوتا ہے کہ وہ معاشرے میں شفا نہیں بلکہ موت کا زہر بیچ رہا ہے۔ اسے معلوم ہوتا ہے کہ وہ کئی گھروں کے چراغ گل کر دے گا۔ کئی پھولوں کو یتیم کر دے گا۔ کئی ساگنوں کے ساگ لوٹ لے گا۔ کئی متابھری آنکھوں کو آنسوؤں کے چشمے بنا دے گا۔ لیکن وہ اپنے مفاد کی خاطر یہ سب کچھ کر گزرتا ہے۔

○ اسلام کی سنہری مالا کو چھوڑ کے اگر کوئی قادیانیت کے کانٹوں کو اپنے گلے میں سجاتا ہے تو اس میں تعجب کی کیا بات ہے؟

○ چینی لوگ مچھلیوں کی موجودگی میں سانپ چھپکلیاں اور دیگر غلیظ کیڑے کھاتے ہیں۔ کورین لوگ خوبصورت بکرے کو چھوڑ کر کتے کا گوشت مزے لے کر کھاتے ہیں۔ یورپین لوگ بہترین مرغوں کو چھوڑ کر لحم خنزیر کو منہ میں ڈالتے ہیں۔ کئی بد بخت آب زم زم کی موجودگی میں اپنے منہ اور معدے کو شراب سے غلیظ کرتے ہیں۔ ہندو اپنے ہاتھوں سے بت بناتا اور پھر اس بت کو خدا کہتا ہے۔ وہ اپنے ہاتھوں سے بنائے ہوئے بت کو تو خدا کہتا ہے

لیکن جس رب نے اسے بنایا اسے خدا نہیں کہتا۔

محترم بھائی! جس طرح مرزا قادیانی کو پتہ تھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خدا کے آخری نبی ہیں لیکن اس نے دعویٰ نبوت کیا، اسی طرح قادیانیوں کی اکثریت کو بھی معلوم ہے کہ مرزا قادیانی اللہ کا نبی نہیں ہے لیکن وہ پھر بھی اپنے مفادات کے لیے اسے نبی مانتے ہیں۔

برادر عزیز! جب میلہ کذاب نے دعویٰ نبوت کیا اور بہت سے لوگوں کو اپنے دام تزییر میں پھنسا لیا تو انہی دنوں میلہ کذاب کا ایک دوست باہر سفر پر تھا۔ جب وہ گھر پلٹا تو لوگ اس کے پاس آئے اور اسے بتایا کہ تیرے دوست میلہ نے نبوت کا دعویٰ کر رکھا ہے۔ اسے بڑا تعجب ہوا۔ اس نے انہیں کہا کہ تم سب میرے ساتھ آؤ، ہم میلہ کے پاس چلتے ہیں۔ جب وہ میلہ کے مکان پر پہنچا تو اس نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ تم باہر ٹھہرو میں اندر بند کمرے میں میلہ سے گفتگو کر کے اسے پرکھتا ہوں کہ وہ سچا ہے یا جھوٹا؟

وہ ایک بند کمرے میں میلہ کے ساتھ طویل گفتگو کرتا رہا۔ اس سے مختلف سوال و جواب کرتا رہا، اسے پرکھتا رہا اور پھر جب وہ کافی دیر بعد میلہ کذاب کے مکان سے باہر آیا تو لوگ اس کے منتظر تھے۔ وہ نور اس کے گرد اکٹھے ہو گئے اور اس سے پوچھا کہ بتا میلہ کو کیا پایا۔ اس نے جواب دیا کہ میں نے میلہ کو ہرزوایے سے پرکھا اور میں اس نتیجہ پر پہنچا ہوں کہ وہ جھوٹا ہے لیکن ہم اسے سچا نبی مانیں گے کیونکہ باہر کے سچے نبی سے گھر کا جھوٹا نبی بہتر ہے۔

ایک منہ دو زبانیں

- جھوٹ کی آبشاریں
- منافقت کی دودھاری تلواریں
- زمین و آسمان کے قلابے
- مشرق و مغرب کے ملاپ
- ایسے جھوٹ جو نہ آپ کی آنکھوں نے پڑھے ہوں گے اور نہ کانوں نے سُننے ہوں گے
- کائنات کے سب سے جھوٹے نبی مرزا قادیانی جہنم مکانی کی حیاتِ کذبہ کا ایک ورق

عالیٰ مجالس تحفظِ فاتحہ نبوۃ

شکاہ صاحبِ ضلع شیخوپورہ فون 2329

بوڑھے آسمان کی تجربہ کار نگاہوں نے بہت سے جھوٹے منہ دیکھے ہوں گے جو جھوٹ سازی، جھوٹ بازی اور جھوٹ باری میں مہارت تامہ رکھتے تھے۔ لیکن آسمان کی نظروں نے مرزا قادیانی جیسا ماہر جھوٹ کا منہ کبھی نہیں دیکھا ہوگا۔ تخلیق آدم سے لے کر لمحہ موجود تک سارے انسانوں نے مشترکہ طور پر اتنے جھوٹ نہیں بولے جتنے مرزا قادیانی نے انفرادی طور پر بولے ہیں۔ کذاب اعظم مرزا قادیانی نے جھوٹ کے چوکے پھلے لگا کر جو پنخیاں بنائی ہیں ان پنخروں کی تعداد کسوڑوں میں ہے۔ مرزا قادیانی مرے ہوئے جھوٹ کو زندہ کر کے اس کا نیا جھوٹ بنا سکتا تھا اور وہ ایک جھوٹ سے مزید درجنوں جھوٹ پیدا کر لیتا تھا گویا اس کا جھوٹ بیچ بھی جتنا تھا۔ اس کا دماغ جھوٹ کا سمندر تھا جس میں جھوٹ کے سارے دریا آکر گرتے تھے۔ اس کا منہ جھوٹ کا ایٹمی پلانٹ تھا جس سے جھوٹ کے بم، میزائل اور راکٹ لاسنچر وغیرہم نکلتے تھے۔ جھوٹ کی کمیونیکیشن (Communication) کے لیے اس کا شیطان سے ہر وقت پاک ٹیل (Paktel) پر رابطہ رہتا تھا۔ اس نے جھوٹ کا جو کوہ ہالیہ تعمیر کیا اس کا بیان ہم کسی اور طویل نشست پر اٹھا رکھتے ہیں۔ اس نشست میں ہم اس کے جھوٹوں کی صرف ایک قسم ”تضاد بیانی“ کو بیان کرتے ہیں۔

قارئین محترم! آپ دیکھیں گے کہ مرزا قادیانی کے منہ میں ایک کی بجائے دو زبانیں ہیں۔ جو نائی کے استروں سے زیادہ تیز اور سکھوں کی کہان سے زیادہ کٹ دار ہیں۔ وہ ان زبانوں کو بڑی مہارت سے ہر وقت استعمال کرتا ہے اور بڑی ہنرمندی سے اپنی ایک زبان کو اپنی دوسری زبان سے کانتا ہے اور پھر دوسری کو پہلی سے انتہائی جا بگدستی سے کانتا ہے۔ ایک زبان سے کسی بات کی تائید کرتا ہے اور پھر دوسری زبان سے تردید کر دیتا ہے۔ ایک زبان سے ہاں (Yes) اور دوسری سے نہیں (No) کہہ دیتا ہے۔ ایک زبان سے کسی چیز کی تصدیق کرتا ہے اور دوسری زبان سے اس کی تکذیب کرتا ہے۔ ایک زبان سے کسی عقیدہ کو ٹھیک کہتا ہے اور دوسری زبان سے اسے مسترد کر دیتا ہے۔ لہذا اب آپ کے سامنے مرزا قادیانی کی

زبانوں کی قلابازیاں اور نوسریازیاں پیش کی جاتی ہیں۔ برائے مہربانی منہ میں انگلی داب کر پڑھئے۔۔۔۔۔

(۱) زبان نمبر ۱: خدا وعدہ کر چکا ہے کہ بعد آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے کوئی رسول نہیں بھیجا جائے گا۔ (ازالہ اوہام، ص ۱۳۰، ج ۲، مصنفہ مرزا قادیانی)

زبان نمبر ۲: سچا خدا وہی ہے جس نے قادیان میں اپنا رسول بھیجا۔ (دافع البلاء، ص ۱۱، مطبوعہ ۱۹۰۲ء، مصنفہ مرزا قادیانی)

عقبی کی باز پرس سے جاتا رہا خیال
دنیا کی لذتوں میں طبیعت ہل گئی

(ناقل)

(۲) زبان نمبر ۱: بعض احادیث میں عیسیٰ ابن مریم کے نزول کا لفظ پایا جاتا ہے لیکن کسی حدیث میں یہ نہیں پاؤ گے کہ اس کا نزول آسمان سے ہوگا۔ (حمامتہ البشری، مطبوعہ ۱۸۹۳ء، مصنفہ مرزا قادیانی)

زبان نمبر ۲: صحیح مسلم کی حدیث میں یہ لفظ موجود ہے کہ حضرت مسیح جب آسمان سے اتریں گے تو ان کا لباس زرد رنگ کا ہوگا۔ (ازالہ اوہام، ص ۸۱-۹۲، مطبوعہ ۱۸۹۱ء، مصنفہ مرزا قادیانی)

تمناؤں میں الجھایا گیا ہوں
”دولت“ دے کے بہلایا گیا ہوں

(ناقل)

(۳) زبان نمبر ۱: بچپن کے زمانہ میں میری تعلیم اس طرح پر ہوئی کہ جب میں چھ سات سال کا تھا تو ایک فارسی خواں معلم میرے لیے نوکر رکھا گیا جنہوں نے قرآن شریف اور چند فارسی کی کتابیں مجھے پڑھائیں۔ (کتاب البریہ، ص ۱۳۹، مطبوعہ ۱۸۹۷ء، مصنفہ مرزا قادیانی)

زبان نمبر ۲: میں حلفا کہہ سکتا ہوں کہ میرا یہی حال ہے کوئی ثابت نہیں کر سکتا کہ میں نے کسی انسان سے قرآن یا حدیث یا تفسیر کا ایک سبق بھی پڑھا ہو۔ (ایام صلح، ص ۱۷۳، مطبوعہ ۱۸۹۹ء، مصنفہ مرزا قادیانی)

ہوتا ہے اک پل میں کھنڈر دنیا بنا ہوا
پانی بھی مانگتا نہیں تیرا ڈسا ہوا

(ناقل)

(۳) زبان نمبر ۱: یہ بالکل غیر معقول اور بے ہودہ امر ہے کہ انسان کی اصل زبان تو کوئی اور ہو اور الہام اس کو کسی اور زبان میں ہو کیونکہ اس میں تکلیف ملا یطاق ہے اور ایسے الہام سے فائدہ کیا ہوا جو انسانی سمجھ سے بالاتر ہے۔ (چشمہ معرفت، ص ۲۰۹، مطبوعہ ۱۹۰۹ء، مصنفہ مرزا قادیانی)

زبان نمبر ۲: بعض الہامات مجھے ان زبانوں میں بھی ہوتے ہیں جن سے مجھے کچھ واقفیت نہیں جیسے انگریزی، سنسکرت، عبرانی وغیرہ جیسا کہ براہین احمدیہ میں کچھ نمونہ ان کا لکھا گیا۔ (نزول المسیح، ص ۵۷، مطبوعہ ۱۹۰۲ء، مصنفہ مرزا قادیانی)

میری بے نور سی آنکھوں پہ تعجب نہ کرو
یہ دیے خود ہی بجھائے ہیں تمہیں کیا معلوم

(ناقل)

(۵) زبان نمبر ۱: حضرت مسیح کی چڑیاں باوجودیکہ معجزہ کے طور پر ان کا پرواز قرآن کریم سے ثابت ہے پھر بھی مٹی کی مٹی ہی تھی۔ (آئینہ کمالات اسلام، ص ۶۸، مطبوعہ ۱۸۹۳ء، مصنفہ مرزا قادیانی)

زبان نمبر ۲: اور یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ ان پرندوں کا پرواز قرآن شریف سے ہرگز ثابت نہیں ہوتا۔ (ازالہ اوہام، ص ۳۰۷، طبع اول ۱۸۹۱ء، مصنفہ مرزا قادیانی)

اب تو ہے عشق بتاں میں زندگانی کا مزا
جب خدا کا سامنا ہوگا تو دیکھا جائے گا

(ناقل)

(۶) زبان نمبر ۱: عیسائیوں اور یہودیوں نے اپنے دجل سے خدا کی کتابوں کو بدل دیا۔ (نور القرآن، جلد اول، نمبر ۶، مصنفہ مرزا قادیانی)

انجیل اور تورات ناقص اور محرف اور مبدل کتابیں ہیں۔ (دافع ابلاء،

ص ۱۹، مصنفہ مرزا قادیانی)

چاروں انجیلیس نہ اپنی صحت پر قائم ہیں اور بہ سبب اپنے بیان کی رو سے الہامی ہیں اور اس طرح انجیلوں کے واقعات میں طرح طرح کی غلطیاں پڑ گئیں اور کچھ کا کچھ لکھا گیا۔ (براہین احمدیہ، حصہ چہارم، ص ۳۳۱، طبع قدیم، مصنفہ مرزا قادیانی)

زبان نمبر ۲: یہ کہنا کہ وہ کتابیں محرف و مبدل ہیں ان کا بیان قابل اعتبار نہیں ایسی بات وہی کرے گا جو خود قرآن شریف سے بے خبر ہے۔ (چشمہ معرفت، ص ۵۷، حاشیہ مطبوعہ ۱۹۰۸ء، مصنفہ مرزا قادیانی)

راہ زن جب رہبری کا مدعی بن کر اٹھے
ہر دور اپنے سے نہ کیوں اک فتنہ محشر اٹھے

(ناقل)

(۷) زبان نمبر ۱: حضرت مسیح تو ایسے خدا کے متواضع اور حلیم اور عاجز اور بے نفس بندے تھے جو انہوں نے یہ بھی روانہ رکھا کہ کوئی ان کو نیک آدمی کہے۔ (حاشیہ براہین احمدیہ، ص ۱۰۴، مصنفہ مرزا قادیانی)

حضرت مسیح تو وہ بے نفس انسان تھے جنہوں نے یہ بھی نہ چاہا کہ کوئی ان کو نیک انسان کہے۔ (چشمہ مسیحی، ص ۳۴، مصنفہ مرزا قادیانی)

زبان نمبر ۲: یسوع اس لیے اپنے تئیں نیک نہیں کہہ سکا کہ لوگ جانتے تھے کہ یہ شخص شرابی کبابی ہے اور خراب حال چلن۔ (ست بچن، ص ۱۷۲، مصنفہ مرزا قادیانی)

شیطان اس کو دیکھ کے کہتا تھا رشک سے
بازی یہ مجھ سے لے گیا تقدیر دیکھئے

(ناقل)

(۸) زبان نمبر ۱: حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی قبر بلکہ قدس میں ہے اور اب تک موجود ہے اور اس پر ایک گرجا بنا ہوا ہے اور وہ گرجا تمام گرجاؤں سے بڑا ہے اور اس کے اندر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی قبر ہے اور اسی گرجا میں حضرت مریم

صدیقہ کی قبر ہے اور دونوں قبریں علیحدہ ہیں۔ (اتمام الحجہ، مصنفہ مرزا صاحب شادت محمد سعید طرابلس، ص ۲۰)

زبان نمبر ۲: خدا کا کلام قرآن شریف گواہی دیتا ہے کہ وہ مرگیا اور اس کی قبر سری نگر کشمیر میں ہے جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:

یعنی ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کو اور اس کی ماں کو یہودیوں کے ہاتھ سے بچا کر ایک ایسے پہاڑ میں پہنچا دیا جو آرام اور خوشحالی کی جگہ تھی اور مصفی پانی کے چشمے جاری تھے۔ سو وہی کشمیر ہے اسی وجہ سے حضرت مریم کی قبر زمین شام میں کسی کو معلوم نہیں۔ (حقیقتہ الوحی، ص ۱۰۱، حاشیہ مصنفہ مرزا قادیانی)

نئے صنم کدوں میں آگئے نئے نئے بت
نئے بتوں کی نئی گھات سے خدا کی پناہ

(ناقل)

(۹) زبان نمبر ۱: میں نبوت کا مدعی نہیں ہوں۔ (اعلان مورخہ ۳ اکتوبر ۱۸۹۱ء، مصنفہ مرزا قادیانی)

زبان نمبر ۲: ہم دعویٰ سے کہہ سکتے ہیں کہ ہم نبی اور رسول ہیں۔ (اخبار البدور، ۵ مارچ ۱۹۰۸ء، مصنفہ مرزا قادیانی)

خوف خدائے پاک دلوں سے نکل گیا
آنکھوں سے شرم سرور کون و مکان گئی

(ناقل)

(۱۰) زبان نمبر ۱: ہمارا مذہب تو یہ ہے کہ جس دین میں نبوت کا سلسلہ نہ ہو وہ مردہ ہے۔ یہودیوں، عیسائیوں، ہندوؤں کے دین کو جو ہم مردہ کہتے ہیں تو اسی لیے کہ ان میں رب کا کوئی نبی نہیں ہوتا۔ اگر اسلام کا بھی یہی حال ہوتا تو پھر ہم بھی قصہ گو ٹھہرے۔ (اخبار بدور، ۵ مارچ ۱۹۰۸ء، مصنفہ مرزا قادیانی)

زبان نمبر ۲: کیا تو نہیں جانتا کہ پروردگار رحیم اور صاحب فضل نے ہمارے نبی صلعم کو بغیر کسی استثناء النبیین کے خاتم النبیین نام رکھا اور ہمارے نبی نے اہل قلب کے لیے اس کی تفسیر اپنے قول ”لانی بعدی“ میں واضح طور پر فرمادی۔

(حماتہ البشری، ص ۳۴، مصنفہ مرزا قادیانی)

ہلاکت آفریں اس کی ہر بات
عبارت کیا، اشارت کیا، ادا کیا

(ناقل)

(۱۱) زبان نمبر ۱: میرا مذہب یہی ہے کہ میرے دعویٰ کے انکار سے کوئی شخص کافر نہیں ہو سکتا۔ (تریاق القلوب، ص ۱۳۰، مصنفہ مرزا قادیانی)

زبان نمبر ۲: جو مجھے نہیں مانتا وہ خدا اور رسول کو نہیں مانتا۔ وہ مومن کیونکر ہو سکتا ہے۔ (حقیقت الوحی، ص ۱۶۳-۱۶۴، مصنفہ مرزا قادیانی) (مجموعہ فتاویٰ، جلد اول، ص ۱۵)

اپنی حالت پہ میں ہنستا بھی رہا ہوں اکثر
اپنے ہی حال پہ آنسو بھی بہائے میں نے

(ناقل)

(۱۲) زبان نمبر ۱: وہ آتھم ہمارے آخری اشتہار سے جو اتمام حجت کی طرح تھا، سات ماہ کے اندر ہی فوت ہو گیا۔ (سراج المنیر، ص ۶، مصنفہ مرزا قادیانی)

زبان نمبر ۲: آتھم میرے آخری اشتہار سے پندرہ ماہ کے اندر مر گیا۔ (حاشیہ حقیقت الوحی، ص ۲۰۹، مصنفہ مرزا قادیانی)

احقوں کی کمی نہیں غالب
ایک ڈھونڈو ہزار ملتے ہیں

(ناقل)

(۱۳) زبان نمبر ۱: وہ اللہ جس نے اپنے رسول کو ہدایت کے ساتھ بھیجا اور دین حق کے ساتھ۔ (البشری، جلد دوم، ص ۱۰، مصنفہ مرزا قادیانی)

زبان نمبر ۲: قرآن کریم بعد خاتم النبیین کے کسی رسول کا آنا جائز نہیں رکھتا۔ (ازالہ اوہام، ص ۶۱، مصنفہ مرزا قادیانی)

ڈھیٹ اور بے شرم بھی عالم میں ہوتے ہیں مگر
سب پہ سبقت لے گئی ہے بے حیائی آپ کی

(ناقل)

(۱۴) زبان نمبر ۱: مسیح کا بغیر باپ کے پیدا ہونا کچھ عجوبہ نہیں۔ (جنگ مقدس' ص ۷، مصنفہ مرزا قادیانی)

زبان نمبر ۲: اس میں یعنی مسیح کی ولادت بے پدر میں ایک عجوبہ قدرت ہے۔ (اخبار البدن، ص ۳، ۱۶ مئی ۱۹۰۷، مصنفہ مرزا قادیانی)

کوئی اس دور میں وہ آئینے تقسیم کرے
جس میں باطن بھی نظر آتا ہو ظاہر کی طرح

(ناقل)

(۱۵) زبان نمبر ۱: حضرت یسوع مسیح شریر، مکار، جھوٹا اور چور وغیرہ۔ (ضمیمہ انجام آٹھم، ص ۳۷، مصنفہ مرزا قادیانی)

زبان نمبر ۲: یسوع مسیح خدا کا پیارا اور قابل انسان تھا۔ (تحفہ قیصریہ، ص ۲۲ و ۲۵، مصنفہ مرزا قادیانی)

ہر قدم پر نت نئے سانچے میں بدل جاتے ہیں لوگ
دیکھتے ہی دیکھتے کتنے بدل جاتے ہیں لوگ

(ناقل)

(۱۶) زبان نمبر ۱: یسوع اس لیے اپنے تئیں نیک نہیں کہہ سکتا کہ لوگ جانتے تھے کہ یہ شخص شرابی کبابی ہے اور خراب چال چلن ناخدائی کے بعد بلکہ ابتداء ہی سے ایسا معلوم ہوتا ہے۔ چنانچہ خدائی کا دعویٰ شراب خوری کا بد نتیجہ ہے۔ (ست پن، ص ۱۷۲، مصنفہ مرزا قادیانی)

زبان نمبر ۲: (الف) جس کو عیسائیوں نے خدا بنا رکھا ہے اس نے اس کو کہا کہ اے نیک استاد تو اس نے جواب دیا کہ تو مجھے کیوں نیک کہتا ہے۔ نیک کوئی نہیں سوائے خدا کے۔ یہی تمام اولیاء کا شعار رہا سب نے استفسار کو اپنا شعار بنایا۔ (ضمیمہ براہین احمدیہ، جلد پنجم، ص ۱۰۷، مصنفہ مرزا قادیانی)

(ب) حضرت مسیح تو ایسے خدا کے متواضع اور حلیم اور صابر اور بے نفس بندے تھے کہ انہوں نے یہ روانہ رکھا کہ کوئی ان کو نیک آدمی کہے۔ (براہین احمدیہ، حاشیہ، ص ۱۰۳، مصنفہ مرزا قادیانی)

وہ جن کے جسم پہ چہرے بدلتے رہتے ہیں
انہیں بھی ضد ہے کہ ان کا بھی احترام کروں

(ناقل)

(۱۷) زبان نمبر ۱: دید گمراہی سے بھرا ہوا ہے۔ (البشری، جلد اول، ص ۱۵۰، مصنفہ مرزا قادیانی)

زبان نمبر ۲: ہم دید کو بھی خدا کی طرف سے مانتے ہیں۔ (پیغام صلح، ص ۱۱، مصنفہ مرزا قادیانی)
دیکھ کے دوستی کا ہاتھ بڑھاؤ
سانپ ہوتے ہیں آستینوں میں

(ناقل)

(۱۸) زبان نمبر ۱: آپ نے ایک جوان کبجری کو موقع دیا کہ وہ آپ کے سر پر
ٹپاک ہاتھ لگائے اور زناکاری کا پلید عطر اس کے سر پر لٹے۔ (ضمیمہ انجام آتھم،
ص ۷، مصنفہ مرزا قادیانی)

زبان نمبر ۲: اگر کوئی حضرت مسیح کی نسبت یہ زبان پر لائے کہ وہ طوائف کے
گندے مال کو کام میں لایا تو ایسے خبیث کی نسبت اور کیا کہہ سکتے ہیں کہ اس کی
فطرت ان ٹپاک لوگوں کی فطرت سے مغائر پڑی ہے اور شیطان کی فطرت کے موافق
اس پلید کا مادہ اور خمیر ہے۔ (آئینہ کمالات اسلام، ص ۵۹۷، مصنفہ مرزا قادیانی)
مقید کر دیا سانپوں کو یہ کہہ کر سپیروں نے
یہ انسانوں کو انسانوں سے ڈسوانے کا موسم ہے

(ناقل)

(۱۹) زبان نمبر ۱: میں نے کشف میں دیکھا کہ میں خود خدا ہوں۔ (کتاب البریت،
ص ۷۸، مصنفہ مرزا قادیانی)

زبان نمبر ۲: آپ نہیں جانتے کہ ہمارے نزدیک وہ نادان ہر ایک زناکار سے
بدتر ہے جو انسان کے پیٹ میں سے نکل کر خدا ہونے کا دعویٰ کرے۔ (نور القرآن،
جلد دوم، ص ۱۳۰، مصنفہ مرزا قادیانی)

صفات میں تو درندوں سے کم نہیں ازہر
اگرچہ شکل سے انسان دکھائی دیتا ہے

(ناقل)

(۲۰) زبان نمبر ۱: مسیح ایک لڑکی پر عاشق تھا جب استاد کے سامنے اس کے حسن و جمال کا تذکرہ کرنے لگا تو استاد نے اسے عاق کر دیا۔ (اشتہار الحکم، فروری ۱۹۰۴ء، مصنفہ مرزا قادیانی)

زبان نمبر ۲: یہودی کہتے ہیں کہ مسیح ایک لڑکی پر عاشق تھا مگر یہ بات بے اعتبار ہے۔ (انجاز احمدی، ص ۲۵، مصنفہ مرزا قادیانی)

وقت پہنچائے گا جس دن کیفر کردار تک

خود الٹ دیں گے یہ مجرم اپنے چہروں سے نقاب

(ناقل)

(۲۱) زبان نمبر ۱: بائبل اور ہماری احادیث کی کتابوں کی رو سے جن نبیوں کا اپنے وجود غضری کے ساتھ آسمان پر جانا تصور کیا گیا ہے وہ دو ہی ہیں، ایک یوحنا جس کا نام ایلیاہ، دوسرے مسیح ابن مریم جن کو عیسیٰ یعنی یسوع بھی کہتے ہیں۔ (توضیح الرام، ص ۳، مصنفہ مرزا قادیانی)

زبان نمبر ۲: حضرت عیسیٰ فوت ہو چکے ہیں اور اس کا زندہ آسمان پر جانا اور اب تک زندہ رہنا اور پھر کسی وقت بمعہ جسم غضری زمین پر آنا یہ سب ان پر تسمت ہیں۔ (ضمیمہ براہین احمدیہ، جلد پنجم، ص ۲۳۰، مصنفہ مرزا قادیانی)

ان سے ضرور ملنا سلیقے کے لوگ ہیں

سر بھی قلم کریں گے بڑے احترام سے

(ناقل)

(۲۲) زبان نمبر ۱: حضرت مسیح..... قریب دو گھنٹے تک صلیب پر رہے۔

(ریویو آف ریلیجنز، جلد دوم، ص ۴۹، مصنفہ مرزا قادیانی)

زبان نمبر ۲: چند ہی منٹ گزرے تھے کہ مسیح کو صلیب پر سے اتار لیا۔ (ازالہ

ادہام، ص ۳۸۰، مصنفہ مرزا قادیانی)

لٹ گیا وہ تیرے کوچے میں رکھا جس نے قدم

اس طرح کی بھی کہیں راہ زنی ہوتی ہے

(ناقل)

(۲۳) زبان نمبر ۱: قادیان طاعون سے اس لیے محفوظ رکھی گئی کہ وہ خدا کا رسول اور فرستادہ قادیان میں تھا۔ (دافع ابلاء، ص ۵، مصنف مرزا قادیانی)
زبان نمبر ۲: ایک دفعہ کسی قدر شدید طاعون قادیان میں ہوئی۔ (حقیقت الوحی، ص ۲۳۲، مصنف مرزا قادیانی)

جھوٹ بولا ہے تو اس پر قائم بھی رہو ظفر
 آدمی کو صاحب کردار ہونا چاہیے

(ناقل)

(۲۴) زبان نمبر ۱: میں تمام گھروالوں کو اس بیماری سے بچاؤں گا۔ (البشری، جلد دوم، ص ۱۳۰، مصنف مرزا قادیانی)

زبان نمبر ۲: طاعون کے دنوں میں جب طاعون زور پر قادیان میں تھی میرا لڑکا شریف احمد بیمار ہو گیا۔ (حقیقت الوحی، ص ۸۴، مصنف مرزا قادیانی)
 ع یہ وہ تلبیس ہے، ابلیس کو خود ناز ہے جس پر

(ناقل)

(۲۵) زبان نمبر ۱: قادیان کے چاروں طرف دو دو میل کے فاصلے پر طاعون کا دور رہا مگر قادیان طاعون سے پاک ہے بلکہ آج تک جو شخص طاعون زدہ قادیان میں آیا وہ بھی اچھا ہو گیا۔ (دافع ابلاء، ص ۵، مصنف مرزا قادیانی)

زبان نمبر ۲: جب صبح ہوئی تو میر صاحب کے بیٹے اشفاق کو تپ تیز ہوا اور سخت گھبراہٹ شروع ہو گئی اور دونوں طرف ران میں گلٹیاں نکل آئیں۔ (حقیقت الوحی، ص ۳۲۹، مصنف مرزا قادیانی)

چہار سمت سے گھیرے ہوئے ہیں آدم خور

میرے خدا مجھے اپنی امان میں رکھنا

(ناقل)

(۲۶) زبان نمبر ۱: سچ تو یہ ہے کہ مسیح اپنے وطن گلیل میں جا کر فوت ہو گیا۔ (ازالہ ادہام، ص ۴۷۳، مصنف مرزا قادیانی)

زبان نمبر ۲: حضرت عیسیٰ نے سری نگر کشمیر میں وفات پائی اور آپ کا مزار سری نگر محلہ خان یار میں موجود ہے۔ (کشف الغطا، ص ۱۳، مصنف مرزا قادیانی)

اللہ رے اسیری ببل کا اہتمام
 صیاد عطر مل کے چلا ہے گلاب کا

(ناقل)

(۲۷) زبان نمبر ۱: حضرت مریم کی قبر زمین شام میں کسی کو معلوم نہیں۔
 (حقیقت الوحی، ص ۱۰۱، حاشیہ ۲، مصنف مرزا قادیانی)

زبان نمبر ۲: حضرت مریم صدیقہ کی قبر بیت المقدس کے بڑے گرجے میں ہے۔
 (اتمام حجت، حاشیہ ص ۱۹، ص ۲۱، مصنف مرزا قادیانی)

الہی محفوظ رکھنا ہر بلا سے
 خصوصاً آج کل کے انبیاء سے

(ناقل)

(۲۸) زبان نمبر ۱: حضرت عیسیٰ دوبارہ دنیا میں تشریف لائیں گے۔ (براہین
 احمدیہ، ص ۳۹۷، مصنف مرزا قادیانی)

زبان نمبر ۲: حضرت عیسیٰ فوت ہو چکے ہیں اور وہ دنیا میں دوبارہ نہیں آئیں
 گے۔ (ازالہ اوہام، ص ۳۷۳، مصنف مرزا قادیانی)

ایسے بھی لوگ ہیں جنہیں پرکھا تو ان کی روح
 بے پیرہن تھی جسم سراپا لباس تھا

(ناقل)

(۲۹) زبان نمبر ۱: عیسائیوں نے یسوع کے بہت سے معجزے لکھے ہیں مگر حق
 بات یہ ہے کہ کوئی معجزہ ظہور میں نہیں آیا۔ (ضمیمہ انجام آتھم، حاشیہ ص ۶، مصنف
 مرزا قادیانی)

زبان نمبر ۲: اور صرف اس قدر سچ ہے کہ یسوع نے بھی بعض معجزات دکھائے
 جیسا کہ اور نبی دکھاتے تھے۔ (ریویو، بابت ستمبر ۱۹۰۲ء، مصنف مرزا قادیانی)

اس کے قامت سے اسے جان گئے لوگ فراز

جو لباس بھی وہ چالاک پہن کر نکلا

(ناقل)

(۳۰) زبان نمبر ۱: میرے الہامات کی رو سے ہمارے آباء اولین فارسی تھے۔
 (کتاب البریہ، ص ۱۳۵، مصنف مرزا قادیانی)

زبان نمبر ۲: بنی فاطمہ میں سے ہوں۔ میری بعض دادیاں مشہور اور صحیح النسب سادات میں سے تھیں۔ (نزول المسیح، ص ۵۰، مصنفہ مرزا قادیانی)
 بدگمانی ہو جس کو خود سے جمال
 راستہ وہ بدلتا رہتا ہے

(ناقل)

(۳۱) زبان نمبر ۱: کرشن میں ہی ہوں۔ (تذکرہ، ص ۳۸۱، مصنفہ مرزا قادیانی)
زبان نمبر ۲: امین الملک جے سنگھ بہادر۔ (تذکرہ، ص ۴۷۲، مصنفہ مرزا قادیانی)
 کیوں قادیانیو! تمہارا مرزا ہندو تھا یا سکھ (ناقل)

سجاتا رہتا ہوں کانڈ کے پھول پیڑوں پر
 میں تیلیوں کو پریشان کرتا رہتا ہوں

(ناقل)

(۳۲) زبان نمبر ۱: الامام ہوا کہ تو فارسی جوان ہے۔ (تذکرہ، ص ۶۳۴، مصنفہ مرزا قادیانی)
زبان نمبر ۲: بابو الہی بخش چاہتا ہے کہ تیرا حیض دیکھے۔ (البشری، ص ۶۵، جلد ۲، مصنفہ مرزا قادیانی)

بولو قادیانیو! مرزا قادیانی مرد تھا یا عورت؟ شاباش بولو۔ (ناقل)

تیرے محیط میں کوئی گوہر زندگی نہیں

ڈھونڈ چکا میں موج موج دیکھ چکا صدف صدف (ناقل)

قادیانیو! ذرا خالی الذہن ہو کر سوچو

کیا اس کردار کے لوگ نبی ہوتے ہیں؟

کیا اس گفتار کے لوگ رسول ہوتے ہیں؟

کیا اس معیار کے لوگ مہدی و مسیح ہوتے ہیں؟

کیا اس قماش کے لوگ ہادی و راہنما ہوتے ہیں؟

کیا تم کسی ایسے جھوٹے کو دوست بنانا پسند کرو گے؟

کیا تم کسی ایسے تضاد بیان سے رشتہ نانا کرنا پسند کرو گے؟

کیا تم کسی ایسے چکر باز کو معمولی سی رقم ادھار دینا پسند کرو گے؟
 کیا تم کسی ایسے نو سرباز کی 'عدالت میں ضمانت دینا پسند کرو گے؟
 خدا را! مرزا قادیانی کو منصب نبوت پر بٹھانے سے پہلے منصب نبوت کی
 عظمت و رفعت کو سمجھو اور اسے سمجھنے کے لیے سیرت الانبیاء اور بالخصوص سیرت
 سید الانبیاء کا مطالعہ کرو۔

منصب نبوت انسانی ترقی و کمال کا آخری زینہ ہوتا ہے۔ بالفاظ دیگر نبوت
 انسانیت کی معراج ہوتی ہے۔ نبی اپنے وقت میں ہر لحاظ سے سب سے بہترین انسان
 ہوتا ہے۔ انسانی خوبیوں اور محاسن میں کوئی شخص اس کا مقابل نہیں ہو سکتا۔ نبی کا
 کردار و گفتار آفتاب و ستار سے زیادہ روشن ہوتا ہے۔ اس کی زندگی لوگوں کے
 لیے نمونہ ہوتی ہے۔ اسے لوگوں کی قیادت سونپی جاتی ہے اور وہ زندگی کے ہر
 گوشے میں ان کی راہنمائی کرتا ہے۔ اس کی شخصیت اتنی اجلی اور منور ہوتی ہے کہ
 وہ معصوم عن الخطاء ہوتا ہے۔

کسی نے منصب نبوت اور نبی کی کیا خوب تعریف کی ہے:

”ہم نبوت کی حقیقت اور ماہیت کو تو نہیں جان سکتے لیکن قرآن
 کریم نے مقام نبوت کا جو تصور پیش کیا ہے وہ اس قدر عظیم اور بلند ہے
 کہ ساری کائنات اس کے سامنے جھکی ہوئی نظر آتی ہے۔ نبوت کا مقام
 اس قدر عظیم المرتبت ہے کہ اس کے تصور سے روح میں بالیدگی، نگاہوں
 میں بصیرت، ذہن میں جلاء، قلب میں روشنی، خون میں حرارت، بازوؤں
 میں قوت، ماحول میں درخشندگی، فضا میں تابندگی اور کائنات کے ذرہ ذرہ
 میں زندگی کے آثار نمودار ہو جاتے ہیں۔ نبی کا پیغام انقلاب آفرین دین
 و دنیا کی سرفرازیوں اور سربلندیوں کا امین ہوتا ہے۔ وہ مردوں کی بستی
 میں صور اسرائیل پھونک دیتا ہے۔ اس سے قوم کے عروق مفلوج میں پھر
 سے خون حیات رقص کرنے لگ جاتا ہے۔ وہ اپنی ملت کو زمین کی پستیوں
 سے اٹھا کر آسمان کی بلندیوں تک پہنچا دیتا ہے، وہ اپنی ہوشیاریا تعلیم اور صحیح
 العقول عمل سے باطل کے تمام نظام ہائے کسنہ کی بنیادیں اکھیر کر آئین
 کائنات کو ضابطہ خداوندی پر مستحکم کر دیتا ہے۔ اس سے زندگی ایک نئی

کروٹ لیتی ہے۔ آرزوئیں آنکھیں ملتی ہوئی اٹھتی ہیں۔ دلوں لے جاگ پڑتے ہیں۔ ایمان کی حرارتیں دلوں میں سوز اور جگر میں گداز پیدا کرتی ہیں۔ روح کی مسرتوں کے چشے اچلتے ہیں۔ قلب و جگر کی نورانیت کی سوس پھونتی ہیں، تازہ امیدوں کی کلیاں مہکتی ہیں۔ زندہ مقاصد کے غنچے پھکتے ہیں اور اس خوش بخت قوم کا چمن دامن صد باغبان و کف ہزار گل فروش کا فردوسی منظر پیش کرتا ہے۔ حکومت ایسے کا قیام اس کا نصب العین اور قوانین خداوندی کا نفاذ اس کا منتی ہوتا ہے۔ جب اس کے ہاتھ خدا کی بادشاہت کا تخت اجلال بچھتا ہے تو باطل کی لہر، طاغوتی طاقت، پہاڑوں کی غاروں میں منہ چھپاتی پھرتی ہے۔ جور و استبداد کے قصر فلک بوس کے کنگورے سجدہ ریز ہو جاتے ہیں۔ طغیان و سرکشی کے آتش کدے ٹھنڈے پڑ جاتے ہیں۔ وہ اپنے ساتھیوں کی قدوسی جماعت کے ساتھ اعلائے کلمتہ الحق کے لیے باہر نکلتا ہے توفیح و ظفر اس کا رکاب چومتی ہے۔ شوکت و حشمت اس کے جلو میں چلتی ہے۔ سرکش اور خودپرست قوتیں اس کے خدائے واحد القہار کا کلمہ پڑھتی ہیں۔ خدا اور اس کے فرشتے ان انقلاب آفرین ملکوتی کارناموں پر خمیں و تبریک کے پھولوں کی بارش کرتے ہیں۔“

اس تعریف کو چشمان عقل و خرد سے پڑھئے۔ بار بار پڑھئے۔۔۔۔۔ اور پھر اس تعریف کے آئینہ میں مرزا قادیانی کی سیرت کی تصویر دیکھئے۔۔۔۔۔ ہر زاویہ نگاہ سے دیکھئے۔۔۔۔۔ ہر ہر سمت سے دیکھئے۔۔۔۔۔ ہر ہر پہلو سے دیکھئے۔۔۔۔۔ اور سوچئے۔۔۔۔۔ خوب سوچئے۔۔۔۔۔ سر تھاں کر اتھاہ گہرائیوں میں جا کر سوچئے۔۔۔۔۔ کیونکہ مسئلہ بڑا نازک ہے۔۔۔۔۔ معاملہ حق و باطل کے درمیان ہے۔۔۔۔۔ معاملہ اسلام و کفر کے مابین ہے۔۔۔۔۔ معاملہ آخرت میں ہمیشہ کے لیے جنت یا ہمیشہ کے لیے دوزخ کا ہے۔۔۔۔۔ اس لیے مسئلہ جتنا بڑا ہو، سوچ بچار بھی اتنی ہی بڑی ہونی چاہیے۔۔۔۔۔ III

اب جس کے جی میں آئے وہی پائے روشنی
ہم نے تو دل جلا کے سرعام رکھ دیا

